



5275CH07

7

باب

ہدایت کاری (DIRECTING)

بنیادی سطح کی قیادت — فورڈ موٹر کمپنی

فورڈ نے ہمیشہ اہل نیجروں اور ٹیکنیشنوں کو راغب کیا اور ان کی نشوونما کی ہے لیکن ان میں جذبہ عمل اور قیادت جیسی خصوصیات پیدا کرنے میں ناکام رہی۔ لہذا کاربنانے والوں کے کلچر میں تبدیلی کے لیے فورڈ نے بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ قائدین تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ فورڈ ”جنگ جوتسم کے نیجروں“ کی ایک فوج بنانا چاہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر پرانے نظریات کو بدل ڈالنے کی ہمت و مہارت ہو اور جو جوش و جذبات سے بھرپور تبدیلی میں یقین رکھتے ہوں۔ یہی بات تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کافی ہوگی۔

فورڈ تقریباً 2,500 نیجروں کو اپنے لیڈر شپ ڈیولپمنٹ سنٹر میں اپنے کسی چار پروگراموں میں کسی ایک کے لیے بھیجے گی۔ یہ چار پروگرام ہیں:

کپسٹون (چوٹی کا پتھر) تجربہ کار لیڈر چیلنج، فورڈ بزنس ایسوسی ایشن اور نیا بزنس لیڈر جس کے تحت نہ صرف ان میں ذہنی انقلاب پیدا کرنا اور ایک انقلابی زبان سے ان کو آشنا کرنا ہے بلکہ انقلاب پیدا کرنے کے لیے ان کو طور طریقے بھی بتانے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں سبھی 100,000 تنخواہ دار ملازمین کا سکیڈ (Cascades) میں شرکت کریں گے اور وہاں عملی مشق بہم پہنچا کر ٹیم پروجیکٹ کے ساتھ ٹھوس بنیادوں، پر باہمی رابطے پیدا کریں گے۔

فورڈ کا خیال ہے کہ بنیادی سطح کی قیادت کامیاب کاروبار کی تخلیق کے لیے بہتر ذریعہ ہے۔

<http://www.fastcompany.com/>

online33/ford.html کے ایک آرٹیکل سے ماخوذ

سیکھنے کے مقاصد
اس باب کے مطالعے کے بعد آپ:

- کاروباری تنظیموں میں ہدایت کاری کے تصور اور اس کی اہمیت کی وضاحت کر سکیں گے؛
- ہدایت کاری عمل کے رہنما اصولوں کو سمجھ سکیں گے؛
- نگرانی اور اس کے معنی کی وضاحت کر سکیں گے؛
- کاروباری مینجمنٹ میں ترغیب و تشویق کے معنی اور اس کی وضاحت کر سکیں گے؛
- تنظیم میں ملازمین کی ترغیب کے تئیں ماسلو (Maslow) کے نظریہ، سلسلہ ضرورت اور کسی تنظیم میں ملازمین کی ترغیب و تشویق کے حوالے سے اس نظریے کے اطلاقی کی وضاحت کر سکیں گے؛
- ان مالیاتی اور غیر مالیاتی ترغیبات کی وضاحت کر سکیں گے جن کے ذریعہ نیچر اپنے ملازمین میں تحریک و تشویق پیدا کرتے ہیں؛
- مینجمنٹ میں قیادت اور اس کی اہمیت کے تصور کی وضاحت کر سکیں گے؛
- اچھے قائد کی خوبیوں کو بیان کر سکیں گے؛
- تنظیموں میں رسمی اور غیر رسمی ابلاغ کے بارے میں وضاحت کر سکیں گے؛ اور
- تنظیموں میں موثر ابلاغ (Communication) کے تئیں مختلف رکاوٹوں کی شناخت اور ان رکاوٹوں پر قابو پانے کے اقدامات بیان کر سکیں گے۔

تعارف

آپ یہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہدایت کاری محض رابطہ رکھنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے عناصر کا احاطہ کرتی ہے جیسے نگرانی، ترغیب و تحریک اور قیادت۔ یہ مینجمنٹ کا ایک کلیدی کام ہے جسے ہر مینجر انجام دیتا ہے۔ ہدایت کاری ایک مینجمنٹ پراسس (Managment Process) ہے جو کسی تنظیم میں شروع سے آخر تک جاری رہتا ہے۔

ہدایت کاری کی اہم خصوصیات پر ذیل میں بحث کی گئی ہے:

(i) ہدایت کاری سے عمل (Action) کا آغاز ہوتا ہے: ہدایت کاری مینجمنٹ کا ایک کلیدی فنکشن ہے۔ ایک مینجر کو تنظیم میں اپنے فرائض ادا کرتے وقت منصوبہ بندی، اسٹاف (عملہ) مہیا کرنے اور کنٹرول کے ساتھ یہ کام انجام دینا ہوتا ہے جہاں تنظیم کے مختلف فنکشنوں سے کام کے لیے فضا تیار ہوتی ہے وہیں ہدایت کاری سے کام (Action) شروع ہوتا ہے۔

(ii) ہدایت کاری مینجمنٹ کی ہر سطح پر واقع ہوتی ہے: ہر مینجر خواہ اعلیٰ منتظم ہو یا نگران ہدایت کا عمل انجام دیتا ہے۔ ہدایت کاری وہیں واقع ہوتی ہے جہاں برتر اور ماتحت کا رشتہ موجود ہوتا ہے۔

(iii) ہدایت کاری ایک مسلسل عمل (Process) ہے: ہدایت کاری ایک مسلسل سرگرمی ہے۔ یہ تنظیم کی ساری مدت میں جاری رہتی ہے چاہے مینجمنٹ کسی کے ہاتھ میں بھی ہو۔ ہم انفوسس، ٹائٹا، BHEL، HLL جیسی تنظیموں میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مینجر تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن ہدایت کاری کا عمل جاری

درج بالا معاملے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سبھی مینجروں میں قیادت کی خوبیوں کا پیدا کرنا کتنا اہم ہے۔ کاروباری تنظیموں نے ہمیشہ اپنے مینجروں کو، جو دوسروں کی قیادت و رہنمائی کرنے کے اہل ہوتے ہیں، بھرپور اہمیت دی ہے۔ ایک مینجر کو قیادت کرنے، ماتحتوں کو ترغیب دینے، ان کا حوصلہ بڑھانے اور ان کے ساتھ ضرورت پڑنے پر رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس باب میں ان طریقوں پر بحث کی گئی ہے جن کو مجموعی طور پر مینجمنٹ کا ہدایت کاری عمل کہا جاتا ہے۔

معنی

عام مفہوم میں ہدایت کاری (Directing) کا مطلب ہدایت دینا اور ان لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے جو کام میں لگے ہوں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم مختلف حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک ہوٹل کا مالک ملازمین کو کسی تقریب کے انعقاد اور اس کی تکمیل کے لیے ہدایت دیتا ہے، یا ایک ٹیچر اپنے طلباء کو کام پورا کرنے کی ہدایت دیتا ہے یا پھر ایک فلم ڈائریکٹر اپنے فنکاروں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ کس طرح فلم میں اداکاری کریں وغیرہ۔ ان سبھی حالات میں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہدایت کاری کچھ پہلے سے متعین مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہے۔

تنظیم کے مینجمنٹ کے حوالے سے ہدایت کاری کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تنظیم میں لوگوں کو ہدایت دینے، رہنمائی کرنے، مشورے، ترغیب دینے اور قیادت کرنے کا عمل ہے۔

ہدایت کاری تنظیم میں ملازمین کی کوششوں کو اس طرح مربوط کرتی ہے کہ ہر فرد کی کوشش تنظیم کی کارکردگی میں معاون بن جاتی ہے۔ اس طرح ہدایت کاری سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ افراد تنظیمی مقاصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں، مثال کے لیے مینجر جس کے اندر اچھی قائدانہ صلاحیتیں ہوں گی وہ اپنے ماتحت کام کرنے والے ملازمین کو مطمئن کرنے کی حیثیت میں ہوگا کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں ہی قسم کی مساعی کا نتیجہ تنظیمی مقاصد کی حصول یابی ہوگا۔

ہدایت کاری تحریک و ترغیب اور موثر قیادت فراہم کر کے ملازمین کو ان کی قوت و استعداد اور صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنے میں رہنمائی کرتی ہے۔ ایک اچھا قائد ہمیشہ اپنے ملازمین کی امکانی قوت کی شناخت کر سکتا ہے اور ان کی مخفی صلاحیت و استعداد ابھار کر اور ان کو تحریک دے کر بھرپور طریقے سے کام میں لاسکتا ہے۔

تنظیم میں ضروری تبدیلیوں کو متعارف کرانے میں ہدایت کاری سے مدد ملتی ہے۔ عام طور پر تنظیم میں تبدیلیوں کے تئیں لوگوں کے اندر مزاحمت کرنے کا میلان ہوتا ہے۔ ترغیب (Motivation) ترسیل

(Communication)، مواصلات اور قیادت کے ذریعے موثر ہدایت کاری ایسی مزاحمت کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے اور تنظیم میں تبدیلیوں کی شروعات کے لیے مطلوبہ تعاون کو فروغ دیتی ہے۔ مثال کے لیے اگر کوئی مینجر کھاتہ داری کا ایک نیا نظام شروع کرنا چاہتا ہے تو اکاؤنٹ عملہ کی طرف سے اس شروعات کی

(ii) رہتا ہے کیوں کہ بغیر ہدایت کے تنظیمی سرگرمیاں جاری نہیں رہ سکتیں۔

(iv) ہدایت کاری اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے: ہدایت کاری اعلیٰ سطح سے شروع ہوتی ہے اور تنظیمی سلسلہ مراتب کے ذریعے نچلی سطح تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مینجر اپنے قریبی ماتحت کو ہدایت دے سکتا ہے اور اپنے قریبی باس سے ہدایات حاصل کر سکتا ہے۔

ہدایت کاری کی اہمیت

ہدایت کاری کی اہمیت اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ تنظیم میں ہر کام کی شروعات صرف ہدایت کاری کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہدایت کاری مشترک مقاصد کی حصول یابی کے لیے لوگوں کو مربوط اور ہم آہنگ کرتی ہے۔ ہدایت کاری کے ذریعے مینجر نہ صرف تنظیم میں لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ انھیں کیا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے اس کی ہدایات کو مناسب تناظر میں نافذ کیا گیا ہے یا نہیں۔ اکثر، یہ تنظیم کی موثر کارگزاری میں اہم بن جاتی ہے۔ جن نکات سے ہدایت کاری کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے ان کو ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔

(i) مطلوبہ مقاصد کی حصول یابی کے تئیں ہدایت کاری سے کام کے شروع کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے لیے اگر کوئی نگران اپنے ماتحتوں کی رہنمائی کرتا ہے اور کسی کام کو انجام دینے میں ان کے شکوک کو رفع کرتا ہے تو اس سے ان کو سوچنے گئے کام کے نشانے حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔

ملازمین کی زیادہ سے زیادہ کوششوں کو شامل کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے کیوں کہ وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی کوششیں مناسب صلوں یا انعامات کی شکل میں نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں۔

مقاصد میں ہم آہنگی: اکثر ہم پاتے ہیں کہ ملازمین کے انفرادی مقاصد اور تنظیمی مقاصد کو ایک دوسرے سے متصادم سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے لیے ملازمین اپنی ذاتی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پرکشش تنخواہ اور دیگر مالی فوائد کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ تنظیم ملازمین سے یہ توقع رکھ سکتی ہے کہ وہ متوقع منافع حاصل کرنے کے لیے وہ پیداواریت میں بہتری پیدا کریں گے۔ لیکن اچھی ہدایت کاری کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ملازمین کو یہ اطمینان دلائے کہ ملازمین کے صلے، انعامات اور کام کو انجام دینے کی کارکردگی ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔

وحدت احکامات: یہ اصول اس بات پر زور دیتا ہے کہ تنظیم کے کسی شخص کو صرف ایک اعلیٰ افسر سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہدایات ایک سے زیادہ اعلیٰ افسر سے حاصل کی جاتی ہیں تو اس سے تنظیم میں غلط فہمی، تضاد اور بد نظمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس اصول سے وابستگی موثر ہدایت کاری کو یقینی بناتی ہے۔

ہدایت کاری تکنیک کی موزونیت: اس اصول کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے وقت مناسب ترغیبی اور قائدانہ تکنیک کا استعمال ماتحت کی ضرورتوں، اہلیتوں، رویوں اور حالات کے لحاظ سے دیگر متغیرات پر مبنی ہونا چاہیے۔ مثال کے لیے کچھ

مزاحمت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مینجر مقصد کی وضاحت کرتا ہے، تربیت دیتا ہے اور اضافی انعامات دے کر ترغیب دیتا ہے تو ملازمین تبدیلی کو قبول کر سکتے ہیں اور مینجر کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔

- (v) موثر ہدایت کاری تنظیم میں استحکام اور توازن پیدا کرنے میں مددگار ہوتی ہے کیوں کہ یہ لوگوں کے درمیان تعاون کو فروغ دیتی ہے اور مختلف گروپوں، سرگرمیوں اور شعبوں کے درمیان توازن رکھنے میں مدد کرتی ہے۔

ہدایت کاری کے اصول

اچھی اور موثر ہدایت کاری چیلنج سے بھرپور ایک کام ہے کیوں کہ اس میں کافی پیچیدگیاں ہیں۔ کسی مینجر کا سابقہ متنوع پس منظر اور مختلف توقعات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ پڑ سکتا ہے۔ اس سے ہدایت کاری کا عمل پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ہدایت کاری کے بعض رہنما اصول ہدایت کاری عمل میں مددگار ہو سکتے ہیں ان اصولوں کو مختصراً ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

- (i) افراد کا زیادہ سے زیادہ تعاون: اس اصول کا سارا زور اس بات پر ہے کہ ہدایت کاری کی تکنیکیں ہر فرد کی اس بات میں مدد کریں کہ وہ تنظیم کے اندر اپنی تمام قوتوں کا استعمال کر کے تنظیم کے مقاصد کے حصول میں معاون اور شریک ہوں۔ اس سے ملازمین کی غیر استعمال شدہ اور مخفی صلاحیتوں کو تنظیم کی بہبود کے لیے کام میں لایا جاسکتا ہے۔ مثال کے لیے، ایک اچھا ترغیبی منصوبہ جس میں مناسب مالی اور غیر مالی انعامات شامل ہوں، تنظیم کے لیے

ہدایت کے عناصر

(Elements of Direction)

ہدایت کاری کے عمل میں مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی تنظیم میں لوگوں کی رہنمائی، تربیت، تعلیم، ترغیب اور قیادت شامل ہے۔ درج ذیل مثالوں پر غور کیجیے (i) سپروائزر کسی کارکن کو ایک خراج کی مشین پر اس کے ذریعے انجام دیے جانے والے کاموں کی وضاحت کرتا ہے۔

(ii) ایک کان کمپنی انجینئر کو نلے کی کان میں کام کرتے وقت اپنائی جانے والی حفاظتی و احتیاطی تدابیر کے بارے میں وضاحت کرتا ہے۔

(iii) ایک نیجنگ ڈائریکٹر کمپنی کے منافع کو بڑھانے میں نیجروں کے اشتراک کے لیے ان کو منافع میں شریک کرنے کا اعلان کرتا ہے۔

(iv) ایک نیجراپنے ملازمین کو کسی کام کو انجام دینے میں اولین رول ادا کرنے کے لیے جوش دلاتا ہے۔

یہ سبھی مثالیں اور بہت سی دوسری سرگرمیاں ہدایت کاری سے متعلق ہیں اور انھیں موٹے طور پر چار زمروں میں بانٹا جاسکتا ہے جو ہدایت کاری کے عناصر ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں:

(i) نگرانی

(ii) تحریک و ترغیب

(iii) قیادت

(iv) ترسیل و ابلاغ

ہدایت کاری کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ان عناصر پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

لوگوں کے لیے روپیہ پیسہ، ترغیب و تشویق کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے اور ایسے ہی ترقی بھی ترغیب و تشویق کا بہترین وسیلہ ثابت ہو سکتی ہے۔

(v) مینجمنٹ کے احکام اور ہدایات کا ابلاغ

(Managerial Communication): تنظیم

میں سبھی سطحوں پر موثر ابلاغ ہدایت کاری کو زیادہ موثر بناتا ہے۔ ہدایت کاری کے ذریعہ ماتحتوں کو پوری طرح سمجھانے میں واضح ہدایات کی ترسیل ہونی چاہیے۔ مناسب جوابی عمل کے ذریعے نیجروں کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے ماتحت ان کی ہدایات کو واضح طور پر سمجھیں۔

(vi) غیر رسمی تنظیموں سے استفادہ: نیجروں کو یہ

احساس ہونا چاہیے کہ ہر رسمی تنظیم میں غیر رسمی گروپ یا تنظیمیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ نیجروں کو موثر ہدایت کاری کے لیے ایسی تنظیموں کا پتہ لگا کر ان کا استعمال کرنا چاہیے۔

(vii) قیادت: ماتحتوں کو ہدایت دیتے وقت، نیجروں کو

اچھی قائدانہ صلاحیت کا استعمال کرنا چاہیے کیوں کہ اس سے ان کے درمیان بے اطمینانی نہیں پیدا ہوتی اور ان پر مثبت اثر پڑتا ہے۔

(viii) ہدایات کے بعد نگرانی: محض حکم دینا کافی

نہیں ہے۔ نیجروں کو اس پر نظر ثانی بھی کرنی ضروری ہے کہ آیا ہدایات پر عمل ہوا ہے یا نہیں نیز ان کے نفاذ میں کچھ مسائل یا مشکلات تو درپیش نہیں۔ اگر ضروری ہو تو ہدایات میں موزوں ترمیم کرنی چاہیے۔

نگرانی (Supervision)

دوسرے نگرانی کو سپروائزر کے ذریعے انجام دیے جانے والے کام کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ دراصل کسی تنظیم کے سلسلہ مراتب میں مینجمنٹ کی حیثیت کا دوسرا نام ہے اور اس کی حیثیت ورکرس سے بلند ہے۔ سپروائزر کے کام اور کارکردگی کسی تنظیم میں نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیوں کہ وہ سیدھے طور پر ورکر سے جڑا ہوتا ہے جب کہ دیگر منیجرز کا پچھلی سطح کے ورکروں سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوتا۔

نگرانی کی اہمیت

نگرانی کی اہمیت کو سپروائزر کے مختلف کرداروں کے ذریعے سمجھا جاسکتا ہے۔ ان کی وضاحت درج ذیل ہے۔

(i) سپروائزر روزمرہ کے رابطے قائم رکھتا ہے اور ورکر سے دوستانہ رشتے برقرار رکھتا ہے۔ ایک اچھا

نگرانی کی اصطلاح کو دو طرح سے سمجھا جاسکتا ہے اولاً اسے ہدایت کاری کے ایک عنصر کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے اور دوسرے، اسے تنظیمی سلسلہ مراتب (Hierarchy) میں سپروائزروں کے ذریعے انجام دیے جانے والے کام (Function) کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔

نگرانی ہدایت کاری کا عنصر ہے اور تنظیم میں ہر منیجر اپنے ماتحتوں کی نگرانی رکھتا ہے۔ اس مفہوم میں نگرانی مطلوبہ مقاصد کی تکمیل کے کاموں کی ملازمین کی کوششوں اور دیگر وسائل کی رہنمائی کے لیے ایک عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماتحتوں کے کاموں کی نگرانی کرنا اور ان کو ہدایت دینا تاکہ حصول مقاصد کے لیے وسائل کو زیادہ سے زیادہ کام میں لایا جاسکے۔

ایک غیر مطمئن منیجر کی ہدایت کاری

رشی جوشی فائن پروڈکشن میں دس سال تک ضلع سیلز منیجر رہیں۔ انھیں ان کے ہم رتبہ اور سپروائزر ان کو ایک ایسی خاتون سمجھتے تھے جس نے محکمے کا بندوبست اچھے انداز میں کیا تھا۔ ہر ایک محسوس کرتا تھا کہ رشی انتہائی بلند عزم و حوصلے کی مالک ہیں اور اعلیٰ سطح کے مینجمنٹ میں اپنی حیثیت تلاش کر رہی ہیں۔ جب ان کے ایک سیلز نمائندے (Sales Representative) نے ایک اچھا کام کیا تو اس کا سہرا انھوں نے خود لینے کی کوشش کی۔ تاہم اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو وہ سوچتیں کہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے۔ جب مارکیٹنگ منیجر سبک دوش ہوئے تو رشی نے اس عہدے کے لیے درخواست دی۔ کمپنی نے اس عہدے کی ذمہ داری اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے کسی موزوں شخص کی تلاش کا فیصلہ کیا۔ جب اس تلاش کا کام مکمل ہوا تب کمپنی کے باہر سے ایک شخص کو اس عہدے پر تقرری کا فیصلہ کیا گیا۔ اعلیٰ مینجمنٹ کی رائے تھی کہ اگرچہ رشی ایک اچھی سیلز منیجر ہیں لیکن ممکن ہے ان کے نئے همسر گروپوں کے ساتھ کام کرنے میں پریشانی ہو۔ انھوں نے محسوس کیا کہ اگر انھوں نے دوسروں کے کام کا سہرا خود لینا شروع کر دیا تو دیگر منیجر ان سے ناراض ہو جائیں گے اور نتیجے میں ان کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ رشی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کافی عرصے سے ایسے کام کی تلاش میں تھیں اور اپنی پوری توانائی اسے حاصل کرنے میں لگا رہی تھیں۔ وہ بہت مایوس ہو گئیں اور ان کا کام خراب ہونے لگا۔ محکمہ اس کے باوجود چلتا رہا کیوں کہ محکمہ ان کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ محکمے کی وجہ سے تھیں۔ فیصلوں کی رفتار بالکل سست تھی، ان کی سیلز کی رپورٹوں میں بھی تاخیر ہونے لگی۔ اگرچہ ان کا سیلز اسٹاف اچھا کام کرتا رہا لیکن رشی اس کا سہرا نہیں لے سکیں۔ جب نئے مارکیٹنگ منیجر نے ذمہ داری سنبھالی تو ان کا پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کسی طرح رشی کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ کارکردگی کی اونچی سطح قائم رکھیں اس کام کے لیے ان کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ انھوں نے تسلیم کیا کہ رشی کافی عرصے سے کمپنی میں کام کر رہی ہیں اور واقعی بہتر کارکردگی کے لیے ان کو ترغیب دینے کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے۔

تحریک و ترغیب (Motivation)

رشی کا معاملہ مینجمنٹ کے کاموں کی ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے! یہ اشارہ ہمیشہ ممکن نہیں کہ اختیارات اور اقتدار کا استعمال کر کے ملازمین سے بہتر کام لیے جاسکیں۔ لوگ ایسا برتاؤ کیوں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صلاحیت ہونے کے باوجود کیوں کام کرنا نہیں چاہتے؟ لوگوں کو موثر طور پر کام کرنے دینے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ایک منیجر کو لوگوں کے برتاؤ کے اسباب کی گہرائی سے جانچ کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک منیجر کا سامنا نہایت ذمہ دار اور سخت محنت کرنے والے اسٹاف سے بھی ہو سکتا ہے اور کابل، حیلے بہانے کرنے والے اور سست رفتار ورکرز سے بھی۔ وہ حیران ہو سکتا ہے کہ ان ورکرز کے ساتھ کیا کرے جو اپنی استعداد کے لحاظ سے کام نہیں کرنا چاہتے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے یہ ترغیب ہی ہے جس سے لوگ رضا کارانہ طور پر کام کرنے میں جوش محسوس کرتے ہیں۔

آئیے ترغیب کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں: ترغیب: ترغیب کا مطلب عمل یا حرکت کے لیے جوش پیدا کرنا یا کام کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ کاروبار کے سیاق و سباق میں اس کا مطلب ہے مخصوص تنظیمی مقاصد کے حصول کے لیے مطلوبہ انداز میں عمل کرنے کے لیے ماتحتوں کو آمادہ کرنا۔ ترغیب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں باہم مربوط تین اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اصطلاحیں ہیں: داعیہ، تحریک اور ترغیبات (Motivators)۔

آئیے ان اصطلاحات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔

سپروائزر ورکرز کے لیے ایک رہنما، دوست اور فلسفی کے طور پر عمل کرتا ہے۔

(ii) سپروائزر ورکرز اور مینجمنٹ کے درمیان ایک کڑی ہے۔ وہ جہاں ایک طرف مینجمنٹ کے خیالات ورکرز تک پہنچاتا ہے وہیں دوسری طرف مینجمنٹ کو ورکرز کے مسائل سے آگاہ کرتا ہے۔ سپروائزرز کا کردار مینجمنٹ اور ورکرز/ملازمین کے درمیان غلط فہمیوں اور تصادم سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔

(iii) سپروائزر اپنے ماتحت ورکرز کے درمیان گروہی اتحاد برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ورکرز کے داخلی اختلاف کا پتہ لگاتا ہے اور ان کے درمیانی ہم آہنگی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔

(iv) سپروائزر مقررہ نشانوں کے مطابق کام کی کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔ وہ کام کی حصول یابی کی ذمہ داری لیتا ہے اور اپنے ورکرز کو موثر طور پر تحریک و ترغیب دیتا ہے۔

(v) سپروائزر ورکرز اور ملازمین کی دوران کار تربیت کرتا ہے۔ ایک ماہر اور واقف سپروائزر ورکرز کی ایک موثر ٹیم بنا سکتا ہے۔

(vi) نگران قیادت تنظیم میں ورکرز پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اچھی قائدانہ خوبیاں ورکرز میں بہت زیادہ حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔

(vii) ایک اچھا سپروائزر انجام دیے گئے کاموں کا تجزیہ کرتا ہے، ورکرز کو بازرسی دیتا ہے اور مہارتوں کے فروغ دینے کے طریقے اور ذرائع کے بارے میں تجاویز پیش کرتا ہے۔

- (i) داعیہ/وجہ ترغیب (Motive): داعیہ ایک باطنی حالت ہے جو مقاصد کے حصول کے لیے قوت پیدا کرتی ہے، فعال بناتی ہے، ان کو حرکت دیتی ہے اور ان کو ہدایت دیتی ہے۔ محرکات افراد کی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر محرک ہو تو فرد کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے اس اضطراب کو کم کرنے کے لیے وہ کچھ عمل کرنے کو آمادہ ہوتا ہے۔ مثال کے لیے غذا کی ضرورت بھوک کے باعث ہوتی ہے۔ اس کے سبب ہی کوئی شخص غذا کی تلاش کرتا ہے۔ بھوک، پیاس، تحفظ، وابستگی، الحاق، تسکین، شناخت وغیرہ ایسے ہی کچھ داعی (Motives) ہیں۔
- (ii) ترغیب (Motivation): تحریک مطلوبہ مقاصد کی تکمیل کے لیے لوگوں کو کام کرنے کے لیے ابھارنے اور ان کو ذہنی طور پر آمادہ کرنے کا عمل ہے تاکہ مطلوبہ مقاصد حاصل ہوں۔
- (i) ترغیبات: ترغیبات وہ تکنیک ہے جو کسی تنظیم میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کسی تنظیم میں منیجر لوگوں کو متنوع ترغیبات جیسے بونس، ترقی، ستائش، اعتراف، ذمے داری وغیرہ کے ذریعے متاثر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بہتر سے بہتر خدمات دے سکیں۔
- (ii) ترغیب یا تحریک کی خصوصیات: تحریک کی مختلف تعریفات اور اس کے بارے میں مختلف نظریات کے تجزیے سے درج ذیل خصوصیات کا پتہ چلتا ہے:
- (i) ترغیب ایک باطنی احساس ہے۔ انسانوں کی لگن، جذبہ، محرکات، خواہشات، عزم، اُممیں، جدوجہد یا ضروریات تحریک کا کام کرتی ہیں اور یہ سب باطنی چیزیں ہیں جو انسانی رویوں کو متاثر کرتی ہیں۔ مثلاً لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس موٹر سائیکل ہو، آرام دہ گھر

تحریک کی تعریف

تحریک کا مطلب مطلوبہ مقاصد کی تکمیل کے لیے لوگوں کو کام کے لیے ابھارنا ہے۔

ولیم جی اسکاؤٹ

تحریک سے مراد اس طریقے سے ہے جس میں انسانوں کے لگن، جذبہ، محرکات، خواہشات، اُممیں، جدوجہد، ضروریات، رہنمائی اور برتاؤ کی وضاحت ہوتی ہے۔

ایم سی فار لینڈ


تحریک ایک تنظیم میں فرد کی کام میں مشغولیت کی شروعات کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی پیچیدہ قوت ہے۔ تحریک کچھ ایسی چیز ہے جو کسی فرد کو فعال بنانے کے لیے متحرک کرتی ہے اور پہلے سے ہی شروع کیے گئے کام کے دوران اس کے کام کو جاری رکھتی ہے۔

ڈیوین

تحریک وہ عمل ہے جو کسی جسمانی یا نفسیاتی ضرورت یا کمی کے ساتھ شروع ہوتا ہے جس سے برتاؤ کو تحریک ملتی ہے، یہ ایسا محرک ہوتا ہے جس کے پیچھے حصول مقصد ہوتا ہے۔

فریڈ لو تھن

کھانے کے لیے ہوٹل کی تلاش میں سڑک پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد اسے ایک ہوٹل مل جاتا ہے جہاں روٹی اور دال 10 روپے کی مل رہی تھی۔ چوں کہ اس کی جیب میں صرف 15 روپے تھے اس لیے اس نے 10 روپے ادا کیے اور کھانے سے تسکین ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس نے توانائی دوبارہ حاصل کر لی۔



ایسی ضرورت جس کی تسکین نہ ہو، تناؤ پیدا کرتی ہے اور یہ تناؤ اس کے طبعی میلانات کو برا بھینٹہ کرتا ہے۔ یہ اندرونی میلانات اس قسم کی ضرورتوں کی تسکین کے لیے، ایک سرگرداں رویے کو جنم دیتا ہے۔ اگر ایسی ضرورت کی تسکین ہو جاتی ہے تو فرد کو تناؤ سے تسکین مل جاتی ہے۔

ترغیب کی اہمیت: ٹائلا اسٹیل کی مثال میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہدایت کاری، ترغیب اور موثر قیادت نے کمپنی کو آگے بڑھایا۔ حتیٰ کہ کمپنی کے ترسیلی نظام نے مقاصد حاصل کرنے میں ملازمین کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

ہو، سماج میں شہرت ہو، وغیرہ لیکن یہ تمام خواہشات کسی فرد کی باطنی خواہشات ہیں۔

(ii) تحریک یا ترغیب ایک بامقصد رویے کی تخلیق کرتی ہے۔ مثال کے لیے کسی ملازم کو اس کی کارکردگی میں بہتری کے مقصد سے نوکری میں ترقی دی جاسکتی ہے۔ اگر ملازم ترقی میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس سے کارکردگی میں بہتری کے لیے رویہ اپنانے میں مدد ملے گی۔

(iii) ترغیب مثبت اور منفی دونوں ہو سکتی ہے۔ مثبت ترغیب میں مثبت انعامات جیسے تنخواہ میں اضافہ، ترقی اور تعریف و توصیف وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ منفی ترغیب میں منفی ذرائع جیسے سزا، تنخواہ میں اضافہ روکنا، دھمکی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان منفی تحریکات (Motivations) سے بھی کسی شخص کو مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے بہتر کام کرنے پر آمادہ کیا جاسکتا ہے۔

(iv) ترغیب ایک پیچیدہ عمل ہے کیوں کہ افراد اپنی توقعات، تصورات میں معاملات میں یکساں نہیں ہوتے۔ ترغیب کی کوئی بھی قسم سبھی افراد پر یکساں کارگر نہیں ہوتی۔

عمل ترغیب (Motivation Process) : ترغیب کا عمل انسانی ضرورتوں پر مبنی ہے۔ ترغیب کے عمل کی وضاحت کے لیے ایک آسان سانموں یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ درج ذیل مثال انسانی ضرورتوں کی تسکین کے عمل کی وضاحت کرتی ہے۔

رامو بہت بھوکا ہے کیوں کہ اس نے صبح ناشتہ نہیں کیا ہے۔ ایک بجے تک وہ بہت مضطرب ہو جاتا ہے اور ناشتہ یا

ٹاٹا اسٹیل میں ملازمین کو ترغیب

ٹاٹا اسٹیل کمپنی میں کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن سے ملازمین کو ترغیب (Motivation) ملے اور افسران کے فیصلہ سازی عمل میں ان کی شرکت یقینی ہو جائے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ پروگرام کے باضابطہ سسٹم کے ذریعے ملازمین کی ٹریننگ کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور یہ بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ان کی صلاحیتوں اور مہارتوں پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی کی جاتی رہے اور ان کی ترقی باری باری سے ہو۔ معاوضے کو کارکردگی سے جوڑ دیا جائے اور انعامات و اعزازات کے نظام کو لاگو کیا جائے۔ کالج مینجمنٹ سسٹم تحسین (Appraisal) سے جوڑ دیا جائے، کام کا معیار بڑھانے کے لیے ان کی بہتر رہنمائی کا بندوبست کیا جائے اور متواتر اصلاح کے پروگراموں پر عمل کیا جائے۔ ملازمین کے استفسارات اور ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے قابل اعتبار اور شفاف نظام ترسیل بھی قائم کیا جائے۔ اس نظام ترسیل میں رسمی ترسیل اور آن لائن ترسیل دونوں شامل ہوں گی اور اس میں ویڈیو کانفرننگ اور MD online سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ مینجمنٹ کے سینئر افسران کے ساتھ گفتگو، مینٹلنگس، کانفرنسیں اور سیمینار بھی اس طریق کا حصہ ہوں گے۔ ان اقدامات کا مقصد ٹاٹا اسٹیل میں ایک ہم آہنگ اور مل جل کر کام کرنے والی ٹیم کی تشکیل کرنا ہے۔ اس سے ملازمین کو ترغیب ملے گی، کمپنی کا خواب پورا ہوگا اور مینجمنٹ پروگرام میں ساجھے داری کے احساس سے ملازمین اپنے کام کو تن دہی سے انجام دیں گے جس کے نتیجے میں کمپنی اپنے نشانے پورے کر سکے گی۔ ٹاٹا اسٹیل ایک ایسی کمپنی ہے جو ملازمین کو کام کرنے کے، آزادانہ مواقع فراہم کرتی ہے، ان کی قوت اختراع کو مہیز کرنا چاہتی ہے چاہے ان کو اپنی کوششوں میں ناکامی ہی کیوں نہ ہو۔

ٹاٹا اسٹیل وہ کمپنی ہے جو سرگرمی کے ساتھ کام کرنے کی آزادی، اختراع پیدا کرنے اور جدت کی آزادی اور یہاں تک کہ ناکام ہونے کی بھی آزادی دیتی ہے۔ یہ ایک ہمہ گیر، تیز، جدید اور قوی نمونہ پذیر راہ پر عمل پیرا ترقی پسند کمپنی ہے۔ کمپنی مینوفیکچرنگ میں اپنی پیداواری سہولیات اور ٹکنالوجی کے معاملے میں ایک انقلابی تبدیلی کے دور سے گزری ہے۔ ان تبدیلیوں کا نتیجہ نوجوان کارکنان کے لیے نئے نئے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے مواقع کی تخلیق اور انفارمیشن ٹکنالوجی نظاموں پر مبنی کارکردگی اور آٹومیشن کی اونچی سطح کی صورت میں نکلا ہے۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ کمپنی اسٹیل کی بہت کم لاگت پر پیداوار کرنے والوں کی ایک کمپنی بن گئی ہے اور یہ واحد ہندوستانی کمپنی ہے جو عالمی معیار کی اسٹیل بنانے والی اعلیٰ ترین کمپنی کے طور پر عالمی اسٹیل ڈائنامکس کے ذریعہ اپنی شناخت بنا چکی ہے۔ ٹاٹا اسٹیل کو امید ہے کہ اس کی قیادت نہ صرف مستحکم ہوگی بلکہ لیڈر شپ ڈیولپمنٹ نظام کو اپنا کردہ اپنی قیادت کو مزید بہتر بنا سکے گی (چنانچہ کمپنی نے دوسری کمپنیوں کے لیے متعدد CEO تیار بھی کیے ہیں۔

<http://www.tata.com/tatasteel/release/20030829.html>

- ترغیب کو اس لیے بھی اہم سمجھا جاتا ہے کیوں کہ اس سے تنظیم میں انسانی وسائل کو شناخت ملنے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں مدد ملتی ہے اور اس لیے بھی ان کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑی تنظیم مختلف قسم کے ترغیبی پروگراموں کو فروغ دیتی ہے اور ان پروگراموں پر
- (i) کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے۔ ترغیب کی اہمیت کو درج ذیل فوائد کے ذریعے واضح کیا جاسکتا ہے۔
- ترغیب ملازمین اور تنظیم کی کارکردگی کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ چونکہ موزوں ترغیب ملازمین کی ضرورتوں کی تکمیل کرتی ہے اس لیے

نئی بھرتی اور تربیت کے لیے مجبور ہو جاتا ہے جس سے کمپنی کو پیسہ، وقت اور کوشش زیادہ لگانی پڑتی ہے۔ ترغیب سے اس طرح کی لاگتوں میں بچت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے تنظیم میں باصلاحیت لوگوں کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔

(iv) ترغیب سے تنظیم میں غیر حاضری (absenteeism) کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ کام کرنے کے لیے نامناسب ماحول، ناکافی صلے، تعریف و توصیف اور انعام و اعزاز کی کمی، سپروائزر اور ہمسروں کے ساتھ خراب رشتے غیر حاضری کے کچھ اہم اور عام اسباب ہیں۔ بہتر ترغیبی نظام کے ذریعے یہ سبھی نقائص دور کیے جاسکتے ہیں۔ اگر ترغیب مناسب طور پر فراہم کی جائے تو کام خوشی و مسرت کا ذریعہ بن سکتا ہے اور کارکن باقاعدہ کام کے لیے باقاعدگی اور دلچسپی کے ساتھ تیار رہتے ہیں۔

(v) مناسب ترغیبات کے ذریعے منیجر کسی بھی نئے کام یا کسی بھی تبدیلی کو بغیر کسی مزاحمت کے شروع کر سکتے ہیں۔ عام حالات میں تنظیم کو کسی نئی تبدیلی کے لیے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر منیجر ملازمین کو قائل کر لیتا ہے کہ مجوزہ تبدیلیوں سے ملازمین کے لیے اضافی صلے ملیں گے تو وہ تبدیلی کو قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔

ماسلو کی پیش کردہ ترغیب کی ضرورت پر مبنی درجہ بندی: چونکہ ترغیب انتہائی پیچیدہ ہے اس لیے بہت سے محققین نے متعدد پہلوؤں سے ترغیب کے بارے میں مطالعہ کیا اور بعض نظریات کو فروغ دیا۔ یہ نظریات ترغیب کے

ملازمین اپنے کام میں بہتر کارکردگی کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو وقف کرتے ہیں۔ ایک مطمئن ملازم ہمیشہ متوقع کارکردگی انجام دیتا ہے۔ تنظیم میں اچھی ترغیب کارکردگی کی اعلیٰ ترین سطح حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے اور ملازمین بھی اس کے بالعوض تنظیمی مقاصد کے لیے اپنی زیادہ سے زیادہ کوششوں کے ذریعے اشتراک کرتے ہیں۔

(ii) ترغیب ملازمین کے منفی یا بے نیازانہ رویوں کو مثبت رویوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس طرح تنظیمی مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے لیے اگر کسی ملازم کو مناسب صلہ یا بدلہ نہ ملے تو وہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے کام کے تئیں غیر وفادارانہ یا منفی رویہ بھی اپنا سکتا ہے۔ اگر مناسب صلہ دیا جاتا ہے اور سپروائزر ان کی مثبت حوصلہ افزائی اور اچھے کام کے لیے تعریف کرتا ہے تب ورکر دھیرے دھیرے کام کے تئیں مثبت رویوں کو فروغ دے سکتا ہے۔

(iii) ترغیب، ملازمت یا نوکری چھوڑنے والوں کی تعداد کم کرتی ہے اور اس طرح ان کی جگہ کی جانے والی نئی بھرتی اور تربیت کی لاگت کی بچت ہوتی ہے۔ ملازمین کے آنے اور الگ ہونے کی اونچی شرح کا خاص سبب ترغیب و تحریک کی کمی ہے۔ اگر منیجر ملازمین کی ترغیبی ضرورتوں کی شناخت کرتے ہیں اور موزوں ترغیبات فراہم کرتے ہوں تو ملازمین ہو سکتا ہے تنظیم چھوڑنے کے بارے میں کوئی خیال دل میں نہ لائیں۔ ترک ملازمت کی اونچی شرح سے منجمنٹ

سیاق و سباق میں بنیادی تنخواہ ان ضرورتوں کی تسکین و تکمیل میں مددگار ہوتی ہے۔

(ii) سلامتی / حفاظتی ضرورتیں: یہ ضرورتیں جسمانی اور جذباتی نقصان سے سلامتی اور تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ مثالیں: کام کا تحفظ، آمدنی کا مستحکم ہونا، پینشن منصوبے وغیرہ۔


(iii) وابستہ ہونے / متعلق ہونے کی ضروریات: ان ضرورتوں کا تعلق، قبولیت احساس وابستگی، محبت اور دوستی سے ہے۔

(iv) خودی کی ضرورتیں: ان میں عزت نفس، خودارادیت، خودداری، اپنی حیثیت کا اعتراف اور توجہ شامل ہیں:

(v) خودیا فتنگی یا خودشناسی کی ضروریات: یہ اس نظام میں ضرورت کی سب سے اونچی سطح ہے۔

بارے میں شعور و ادراک پیدا کرنے میں معاون و مددگار ہیں۔ ان میں سے ماسلو کے نظام ضرورت کے نظریہ ترغیب کو سمجھنے کے لیے اساس سمجھا جاتا ہے۔ آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیں۔ ابراہم ماسلو ایک مشہور عالم نفسیات تھا۔ 1943 میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں اس نے نظریہ ترغیب کے عناصر پر بحث کی ہے۔ اس کا نظریہ انسانی ضرورتوں پر مبنی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ہر انسان کے اندر نظام ضرورت کے نظریے کو ترغیب کے پانچ ضرورتوں کا ایک سلسلہ وار نظام موجود ہے۔ یہ پانچ ضرورتیں یہ ہیں:

(i) بنیادی نفسیاتی ضرورتیں: یہ ضرورتیں اس نظام مراتب میں کافی بنیادی ہوتی ہیں۔ یہ انسان کی ابتدائی ضرورتیں ہیں۔ بھوک، پیاس، رہائش، نیند اور جنسی عمل ان ضرورتوں کی کچھ مثالیں ہیں۔ تنظیمی



ماسلو کا ضرورت کی درجہ بندی کا نظریہ

مالی اور غیر مالی ترغیبات (Financial and Non-financial Incentives)

مالی اور غیر مالی ترغیبات (incentive) کا مطلب ان سبھی اقدامات سے ہے جن کا استعمال لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کی کارکردگی میں بہتری پیدا ہو سکے۔ ترغیبات کو موٹے طور پر مالی اور غیر مالی میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ آئیے ان ترغیبات کو تفصیل سے سمجھیں۔

مالی ترغیبات: موجودہ معاشی نظام کے سیاق و سباق میں روزمرہ کی زندگی کی مادی ضروریات کی تکمیل کے علاوہ سماجی حیثیت اور اقتدار حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ چونکہ روپے پیسے میں قوت خرید ہوتی ہے اس لیے یہ ہر فرد کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے۔

مالی ترغیبات سے مراد وہ ترغیبات ہیں جو براہ راست روپے پیسے کی شکل میں ہوتی ہیں یا جو روپے پیسہ کی اصطلاح میں ہوتی ہیں یا مالیاتی اصطلاح میں قابل پیمائش ہوتی ہیں اور بہتر کارکردگی کے لیے لوگوں کو تحریک دینے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ مالی ترغیبات جو عام طور پر تنظیموں میں استعمال کی جاتی ہیں وہ درج ذیل ہے:

(i) تنخواہ اور بھتے: ہر ملازم کے لیے تنخواہ بنیادی مالی ترغیب ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ، مہنگائی بھتہ اور دیگر بھتے شامل ہیں۔ تنخواہ کے نظام میں ہر سال تنخواہ میں باقاعدہ اضافہ اور وقتاً فوقتاً بھتوں میں اضافہ شامل ہے۔ کچھ کاروباری تنظیموں میں تنخواہوں میں اضافہ اور سالانہ اضافہ کارکردگی سے جڑا ہوتا ہے۔

(ii) پیداواریت سے جڑی اجرتی ترغیبات:

کچھ اجرتی ترغیبات کو خود اجرتوں کی ادائیگی سے جوڑ دیا

یہ کسی شخص کا اپنی صلاحیت کے مطابق مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا میلان ہے۔ ان ضرورتوں میں نشو و نما، آسودگی نفس اور مقاصد کا حصول شامل ہیں۔

ماسلو کا نظریہ درج ذیل مفروضات پر مبنی ہے:

(i) لوگوں کا رویہ ان کی ضرورتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کی ضرورتوں کی تسکین ان کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہے۔

(ii) لوگوں کی ضرورتیں ایک سلسلہ وار نظام مدارج پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ نظام بنیادی ضرورتوں سے شروع ہو کر دیگر اونچی سطح تک کی ضرورتوں تک پہنچتا ہے۔

(iii) جس ضرورت کی تکمیل ہو جاتی ہے پھر وہ کسی فرد کے لیے مزید ترغیب کا باعث نہیں ہوتی۔ پھر تو صرف اونچے درجے کی ضرورت انھیں لہما سکتی ہے۔

(iv) کوئی شخص سلسلہ مدارج کی اگلی سطح کی جانب اُس وقت ہی بڑھتا ہے جبکہ اس کی کم تر ضرورت مطمئن ہو چکی ہوتی ہے۔

ماسلو کے نظریے کے مطابق ضرورتیں ہی ترغیب کی اساس بنتی ہیں۔ اس نظریے کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کی ستائش کی جاتی ہے۔ تاہم ضرورتوں کی اس درجہ بندی اور ضرورتوں کے اس سلسلہ مدارج پر کچھ سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ لیکن اس طرح کی تنقید کے باوجود یہ نظریہ اب بھی موزوں ہے کیوں کہ اس سے قطع نظر کہ ضرورتوں کی درجہ بندی کیسے کی گئی ہے، یہ رویے کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔ یہ منیجروں کو یہ محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے کہ ملازم کی سطح ضرورت کی شناخت ہونی چاہیے تاکہ انھیں ترغیب فراہم کی جاسکے۔

ابراہیم ماسلو کا تعارف (1908 تا 1970)

ابراہیم ایچ ماسلو 1908 میں بروکلین، نیویارک میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے یونیورسٹی آف وِسکانسن میں انسان اور بندر وغیرہ جیسی چند جانوروں کے رویے (Behaviour) کا مطالعہ کیا اور 1934 میں نفسیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔

اپنے کیریئر کی شروعات میں، ماسلو کی توجہ ترغیب انسانی (Human Motivation) اور شخصیت کے مطالعے کی طرف مبذول ہوئی۔ اس میدان میں اس کی تخلیق نے سخت گیر کردار پسندوں (Behaviourist) کو مضطرب کر دیا جن کی ترغیب اور شخصیت کے بارے میں توضیحات ماسلو کے مکمل شخص (Whole Person) کی توجہ تو متوجہ کرنے میں ناکام رہے۔ اس کی ضرورتوں کی درجہ بندی کا نظریہ خود شناس فرد (Self-actualized) کی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے جو انسانی نفسیات کے لیے بنیاد تیار کرنے میں ایک مضبوط محرک تھا۔ ماسلو کو عصری نفسیات میں ایک اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کیریئر بہت شان دار رہا ہے۔ ۱۶ سال تک انھوں نے بروکلین کالج میں پڑھایا اور اس کے بعد انھوں نے برانڈیز یونیورسٹی میں شعبہ نفسیات کے چیرمین کے طور پر عہدہ سنبھالا۔ 1968 میں انھیں امریکی نفسیاتی ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا گیا۔ 1969 میں وہ ہینلو پارک میں لاغلس فاؤنڈیشن کیلے فورنیا گئے۔ انھوں نے دو اہم کتابیں لکھیں ایک "Toward a psychology of Being" جو 1968 میں لکھی گئی اور دوسری "Motivation and Personality" جو 1970 میں لکھی گئی۔ ابراہیم ماسلو کی موت 1970 میں دل کا دور پڑنے سے واقع ہوئی۔

(شیر) کی پیش کش کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی مینجمنٹ نقد ترغیبات کے ساتھ ساتھ شیرز دے دیتا ہے۔ حصص کی تفویض ملازمین کے دل میں ملکیت کا احساس پیدا کرتی ہے اور تنظیم کے نمو کے لیے ایک ملازم کے اشتراک و تعاون کو ابھارتی ہے۔ انفوس میں حصص کا متبادل مینجمنٹ کے معاوضے کے ایک جزو کے طور پر لاگو کیا گیا ہے۔

ریٹائرمنٹ کے فوائد: متعدد ریٹائرمنٹ فوائد جیسے پروڈنٹ فنڈ، پنشن اور گریجویٹ ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین کو مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اور یہی چیزیں ملازمت کے دوران، ترغیبات کا بھی کام کرتی ہیں۔

جاتا ہے۔ اس کا مقصد اجرتوں میں اضافے کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر پیداواریت سے جوڑنا ہوتا ہے۔

(iii) بونس: بونس ایک ترغیب ہے جو ملازمین کو اجرتوں اور تنخواہ کے علاوہ دیا جاتا ہے۔

(iv) منافع میں شرکت: منافع میں شرکت کا مطلب ہے تنظیم کے منافعوں میں ملازمین کو حصہ فراہم کرنا۔ منافع میں شرکت سے ملازمین کی کارکردگی میں بھی بہتری پیدا ہوتی ہے اور تنظیم میں ان کا تعاون اور دلچسپی بھی بڑھتی ہے۔

(v) ساجھے داری / حصص: ان ترغیباتی اسکیموں میں کمپنی کے ذریعے ملازمین کو ایک متعین قیمت پر جو بازار کی قیمت کے مقابلے میں کم تر ہوتی ہے حصص

ملازمت میں اس مقام و مرتبے سے ہوتی ہے جو اس کو وہاں حاصل ہوتے ہیں۔

(ii) **تنظیمی ماحول (Organisational Climate):** تنظیمی ماحول سے تنظیم کی خصوصیات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک تنظیم کس طرح دوسری تنظیم سے ممتاز ہے۔ یہ خصوصیات تنظیم کے اندر افراد کے رویے پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان خصوصیات میں سے کچھ انفرادی ہیں: انفرادی خود اختیاری، صلہ رحمی، ملازمین کا خیال رکھنا، مفوضہ کام کا جو کھم وغیرہ۔ ان پہلوؤں کے بارے میں اگر مینجر مثبت اقدامات کرتے ہیں تو اس سے بہتر تنظیمی ماحول پیدا ہوتا ہے۔

(iii) **کیریئر کی ترقی کے مواقع (Career Advancement Opportunities):** ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ تنظیم میں اس کو بلند مقام حاصل ہو۔ مینجروں کو یہ چاہیے کہ وہ ملازمین کے لیے ایسے مواقع فراہم کریں جن سے ان کی مہارتوں میں مزید بہتری پیدا ہو اور نتیجتاً اعلیٰ سطحوں کی ذمہ داریاں ان کو مل سکیں۔ مہارتوں کے فروغ کے لیے مناسب پروگراموں اور ترقی کی صحیح پالیسی اپنانے سے ملازموں کے اندر ترقی حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ترقی دراصل ایک طرح کا مقوی ٹانک ہے جس سے ملازمین میں اپنی بہتر کارکردگی دکھانے کا جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔

(iv) **کار منصفی کا تنوع (Job Enrichment):** اس کا تعلق فرائض منصبی کو بہتر طریقے پر ڈیزائن کرنے سے ہے۔ اس میں کام کے تنوع کے ساتھ

(vii) **اتفاقی بھتے (Perqui ites):** بہت سی کمپنیوں میں اتفاقی بھتے دیے جاتے ہیں جیسے کارالاؤنس، مکان کا کرایہ، طبی مدد اور بچوں کے لیے تعلیم وغیرہ کی سہولیات جو تنخواہ کے علاوہ ہوتی ہیں۔ ان اقدامات سے ملازموں اور مینجروں کو ترغیب ملتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

غیر مالی ترغیبات (Non Financial Incention): صرف روپیے پیسے سے لوگوں کی ساری ضروریات پوری نہیں ہوتیں۔ تشویق و ترغیب کے لیے نفسیاتی، سماجی اور جذباتی عوامل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ غیر مالی ترغیبات انھیں ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ غیر مالی ترغیبات میں روپیے پیسے کا بھی کردار ہوتا ہے۔ غیر مالی ترغیبات کا مقصد نفسیاتی اور جذباتی ضرورتوں کی تکمیل اور تسکین بھی ضروری ہے۔ مثال کے لیے کوئی فرد تنظیم میں ترقی حاصل کرتا ہے۔ اس سے اسے نفسیاتی تسکین ملتی ہے کیوں کہ ترقی، حیثیت میں اضافہ اختیار میں اضافہ اور ملازمت میں چیلنج وغیرہ کا احساس بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگرچہ ترقی میں زائد رقم کی ادائیگی شامل ہے لیکن غیر مالی پہلو مالی پہلوؤں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔

ذیل میں کچھ اہم غیر مالی ترغیبات پر بحث کی گئی ہے

(i) **مرتبہ:** تنظیمی سیاق و سباق میں مرتبہ کا مطلب ہے کہ تنظیم میں مقام و مرتبہ، ملازمت سے متعلق اختیار، ذمہ داری، اعزاز و اکرام، خدمات کا اعتراف اور عزت و احترام ایک ایسے شخص کو دیا گیا ہے جو مینجر کے عہدے پر فائز ہے۔ کسی بھی فرد کی سماجی، نفسیاتی اور جذباتی ضرورتوں کی تسکین و تکمیل، اس عہدے اور

(vi) ملازمت کا تحفظ (Job Security) : ملازمین چاہتے ہیں کہ ان کی ملازمت کو تحفظ حاصل ہو۔ وہ اپنے مستقبل کی آمدنی اور نوکری کو قطعی مستحکم بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان پہلوؤں کے بارے میں فکر مند نہ ہوں اور اپنے کام کو پورے جوش کے ساتھ انجام دے سکیں۔ ہندوستان میں یہ پہلو اس لیے زیادہ اہم ہے کہ کام کے مواقع ناکافی ہیں اور امیدوار زیادہ ہوتے ہیں۔ تاہم نوکری کے تحفظ کا ایک منفی پہلو بھی ہے کہ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نوکری یا عہدے پر کوئی آنچ نہیں آئے گی تب وہ اپنی ذات میں مگن اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔

(vii) ملازمین کی شرکت (Employer Participation) : اس کا مطلب ہے کہ ملازمین سے متعلق امور کے بارے میں فیصلہ سازی میں ان کو شامل کرنا۔ بہت سی کمپنیوں میں یہ پروگرام عملاً مشترکہ مینجٹ کمیٹیوں ورک کمیٹیوں، کینیٹین کمیٹیوں وغیرہ کی شکل میں چل رہے ہیں۔

(viii) ملازم کو با اختیار بنانا (Employer Empowerment) : با اختیار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ماتحتوں کو زیادہ خود مختاری اور اختیار دیا جائے۔ با اختیار بنانے سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے فرائض اہم ہیں۔ با اختیار ہونے کے احساس کا ایک مثبت اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی کارکردگی زیادہ اور مزید بہتر ہو جاتی ہے۔

معلومات اور مہارتوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ اس سے ورکرس میں خود مختاری اور ذمے داری کا احساس پیدا ہوگا۔ اس سے ان کی شخصیت کو جلا ملے گی اور ان کو کام کے بارے میں ایک بامعنی تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ اگر فرائض منصبی متنوع اور دلچسپ ہوں گے تو یہ خود ہی ترغیب و تشویق کا ذریعہ بن جائیں گے۔

(v) ملازمین کی قدر شناسی (Employer Recognition Programmes) : اکثر لوگوں کو اپنے کام کی قدر شناسی اور اظہار پسندیدگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعتراف کا مطلب ہے ستائش یا اظہار پسندیدگی۔ اگر ملازمین کے کاموں کی تعریف و توصیف کی جائے تو وہ اور بھی زیادہ اور اچھا کام کرنے کی طرف رغبت و تحریک محسوس کرتے ہیں۔ ملازمین کی ستائش کی کچھ مثالیں ہیں:

- اچھی کارکردگی کے لیے ملازمین کو مبارک باد دینا۔
- ملازمین کی کامیابیوں کے بارے میں کمپنی کے نوٹس بورڈ یا نیوز لیٹر میں اظہار ستائش
- بہترین کارکردگی کے لیے انعام یا سند دینے کے سلسلے کا قیام
- بہتر کارکردگی کے لیے انعام یا سرٹیفکٹ عطا کرنا ملازمین کی خدمات کے اعتراف میں ٹی شرٹ وغیرہ جیسے تحائف تقسیم کرنا
- قیمتی تجاویز پیش کرنے پر کسی ملازم کو انعام سے نوازنا

قیادت

ہے۔ تنظیمی مقاصد کے حصول کے لیے ماتحتوں کے ساتھ بہتر رشتوں کا قائم کرنا اور ان کا تعاون حاصل کر لینا ہی قیادت ہے۔ اس سے کسی فرد کی قائدانہ صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے۔

قیادت کی خصوصیات

درج بالا تعریف کے جائزے سے قیادت کی درج ذیل اہم خصوصیات کا پتہ چلتا ہے:

- (i) قیادت دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی فرد کی صلاحیت کا اظہار ہے۔
- (ii) قیادت دوسروں کے برتاؤ میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش ہے۔
- (iii) قیادت قائدین اور پیروکاروں کے درمیان باہمی روابط کو ظاہر کرتی ہے۔

جب ہم کسی تنظیم کی کامیابی کی کہانیوں کو سنتے ہیں تو ہمیں فوری ان کے قائدین کی یاد آ جاتی ہے۔ کیا آپ بل گیٹس کے بغیر مائیکروسافٹ، امبانی بھائیوں کے بغیر ریلیننس انڈسٹریز، نارائن مورتی کے بغیر انفوس، جے۔ آر۔ ڈی ٹاٹا کے بغیر ٹاٹا یا عظیم پریم جی کے بغیر وپرو کا تصور کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ایسے عظیم قائدین کے بغیر کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی تنظیم کی کامیابی اور بہتری کے لیے قائد ہمیشہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

آئیے قیادت، اس کی اہمیت اور اچھے قائدین کی خوبیوں کے بارے میں جانیں۔ قیادت تنظیمی مقاصد کی حصول یابی کے تئیں رضا کارانہ طور پر لوگوں میں جدوجہد کا جذبہ پیدا کر کے ان کے برتاؤ پر اثر انداز ہونے کا عمل

قیادت کی تعریفیں (Definitions of Leadership)

قیادت اجتماعی مقاصد کی حصول یابی کے لیے جانے والی جدوجہد کے ذریعے عوام کو متاثر کرنے کی ایک سرگرمی ہے۔

جارج ٹری

قیادت لوگوں پر اثر انداز ہونے کا فن یا عمل ہے تاکہ وہ اجتماعی مقاصد کے حصول کے لیے رضا کارانہ اور پر جوش طور پر جدوجہد یا سخت محنت کریں گے۔

Harold Hoontz and Heinz Wehrich

قیادت بین شخصی رویوں (Interpersonal behaviours) کا ایک مجموعہ ہے جو ملازمین پر اثر انداز ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ حصول مقاصد میں تعاون کریں۔

گلوٹنیک

قیادت ایک عمل (Process) بھی ہے اور ایک خاصیت (Property) بھی۔ قیادت کا عمل (Process) ایک غیر جابرانہ اثر و رسوخ کا استعمال ہے تاکہ ایک منظم گروپ کے افراد کی سرگرمیوں کی صحیح رہنمائی کی جاسکے اور مقاصد کے حصول کے لیے ان میں تال میل قائم کیا جاسکے۔ ایک خاصیت (Property) کے طور پر قیادت ان محاسن (Qualities) یا خصوصیات کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں سے منسوب ہے جو ایسے اثر و رسوخ کو کامیابی سے استعمال کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔

گرے اینڈ اسٹارک

موثر قیادت سے مراد کم سے کم لاگت پر مقاصد کو حاصل کرنا اور کام کو بروقت مکمل کرنا ہے۔



- (iv) قیادت کا استعمال تنظیم کے مشترکہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
- (v) قیادت ایک مسلسل عمل ہے۔
- قائد کی اصطلاح قیادت سے لی گئی ہے۔ کوئی فرد جس میں قیادت کی صفات ہوں، اسے قائد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قیادت پر بحث کرتے ہوئے قائد اور ماتحت (Follower) کے رشتے کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی تنظیم کی کامیابی اکثر قائد سے منسوب کی جاتی ہے لیکن بہت سے ایسے عوامل جن کا تعلق ماتحتوں (Followers) سے ہے قیادت کو موثر بناتے ہیں۔ ان عوامل میں پیروکاروں کی مہارتیں، ان کا عمل، کام کے لیے ان کی لگن، ان کا جذبہ تعاون اور اجتماعی جدوجہد وغیرہ شامل ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ماتحت قیادت کی قبولیت کے ذریعے کسی فرد کو ایک
- اچھا قائد بناتے ہیں۔ لہذا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ قائد اور ماتحت قائدانہ عمل میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ قیادت کسی اہمیت: قیادت کسی تنظیم کی کامیابی میں ایک کلیدی عنصر ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر کسی تنظیم کی کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق صرف قیادت کا ہوتا ہے۔ اس بات کو Stephen Covey نے، جو ایک مشہور و معروف مینجمنٹ کنسلٹنٹ رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں واضح کیا ہے کہ منبج بہت اہم ہوتے ہیں لیکن کسی تنظیم کی دیر پا کامیابی کے لیے قائدین بڑی حیات بخش اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ قائد نہ صرف اپنے ماتحتوں کو تنظیم کے مقاصد کا پابند بنا لیتا ہے بلکہ ضروری وسائل بھی فراہم کرتا ہے۔ وہ مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے ماتحتوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو ترغیب دیتا ہے۔

رکھتا ہے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں مددگار ہوتا ہے۔ وہ ضروری اعتماد، حمایت اور حوصلہ افزائی فراہم کرتا ہے اور اسی بنا پر کام کرنے کے ایک خوش گوار ماحول کی تخلیق کرتا ہے۔ تنظیم میں مطلوبہ تبدیلیوں کو شروع کرنے کے معاملے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو پورے دل سے تبدیلیوں کو قبول کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

قیادت کی اہمیت کو تنظیم کے درج ذیل فوائد سے سمجھا جاسکتا ہے۔

- (i) قیادت لوگوں کے رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور تنظیم کے فوائد کے لیے ان کی توانائیوں کا مثبت طور پر اشتراک حاصل کرتی ہے۔ اچھے قائدین ہمیشہ اپنے ماتحتوں کے ذریعے اچھے نتائج پیدا کرتے ہیں۔
- (ii) ایک قائد اپنے ماتحتوں کے ساتھ ذاتی رشتے برقرار

انفوسس میں قیادت (Leadership at Infosys)

انفوسس کے سابق چیرمین، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تاریخی شخصیت، ادارہ ساز، رہنما اور ہدایت کاری کی اہلیتوں کی اعلیٰ ترین مثال، این۔آر۔نارائن مورتی کے بارے میں جاننا دلچسپ اور حوصلہ افزا ہوگا۔ ریاست کرناٹک میں 20 اگست 1946 کو پیدا ہوئے مسٹر نارائن مورتی نے میسور یونیورسٹی سے 1967 میں B.E. ڈگری حاصل کی اور 1969 میں کانپور کی IIT سے ماسٹر ڈگری (M.Tech) حاصل کی۔ انھوں نے IIM، احمد آباد کے کمپیوٹر مرکز کے سربراہ کے طور پر اپنے کیریئر کی شروعات کی۔

انھوں نے 1981 میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سافٹ ویئر کمپنی انفوسس کی شروعات کی اور اسے 2002 تک ایک عالمی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی میں بدل دیا۔ وہ دو دہوں تک کمپنی کے چیف صلاح کار، CEO رہے۔ اسی دوران انھوں نے کمپنی کو ناقابل تصور حد تک بلند یوں پر پہنچایا۔ 1981 میں کمپنی کا ایکویٹی کیپٹل (Equity Capital) 10,000 روپے تھا۔ 2001 میں انفوسس کا مارکیٹ سرمایہ 11 بلین روپے تک پہنچ گیا۔ انفوسس ہندوستان سے سافٹ ویئر برآمد کرنے والی بڑی کمپنی بن گئی۔ یہ پہلی کمپنی ہے جو 1999 میں Nasdaq اسٹاک مارکیٹ میں درج فہرست کی گئی۔

نارائن مورتی کو بہت سی باتوں کے لیے ایک اعلیٰ قائد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انھیں اپنے ٹیم کے ممبران، ایگزیکٹوز اور ورکرز پر کافی بھروسہ تھا۔ انھوں نے کوچنگ اور ٹریننگ کے ذریعے قیادت کی خوبیوں کو پروان چڑھایا اور اسے فروغ دیا۔ انھوں نے 2001 کے اوائل میں انفوسس لیڈرشپ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا تاکہ انفوسس کے ہونہار لوگوں کو عالمی قائدانہ صلاحیت فراہم کی جاسکے۔ مسٹر مورتی نے بھروسہ کر کے اور ایک مثال قائم کر کے قیادت کی۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ ایک سچا رہنما وہ ہوتا ہے جو خود اپنی مثال قائم کر کے اور قربانی پیش کر کے قیادت کی ذمہ داری نبھائے۔ انھوں نے انفوسس میں اس پروا غما عمل کیا اور اسے ثابت کر دکھایا۔ مسٹر مورتی ہمیشہ اپنی ٹیم کو ترغیب و تحریک دیا کرتے تھے۔ انھوں نے متعدد ترغیبی اسکیمیں شروع کیں جس میں انفوسس کے ایگزیکٹوز کے لیے انوکھی اسٹاک پسندی (Stock Option) اسکیم بھی شامل ہے۔

نارائن مورتی مختلف صلاحیتوں میں بہت سے قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ وابستہ تھے اور انھوں نے وسیع ترین سرگرمیوں کے تئیں اپنی خدمات کو وسعت دی۔ انھیں علمی، سماجی اور کاروباری کمیونٹی کے ذریعہ ایوارڈ اور اعزازات سے نوازا گیا۔ خود اپنے معیارات قائم کر کے انھوں نے 2002 میں انفوسس کی باگ ڈور اپنے دوست اور ساتھی فاؤنڈر نندن نیل کانی (Nandan Nilkani) کو سونپ دی۔

ہمیشہ اپنا جانشین تیار کرتا ہے اور جانشینی کے عمل کو آسان بناتا ہے۔

اچھے قائد کی خوبیاں: ایک اچھے قائد میں کیا خوبیاں ہونی چاہئیں؟ کیا سبھی اچھے قائدین میں مشترکہ خوبیاں ہوتی ہیں؟ اس طرح کی کتنی خوبیاں ایک کامیاب قائد میں ہونی چاہئیں۔ قیادت کا ایک نظریے کے مطابق ایک شخص کو کامیاب قائد بننے کے لیے بعض خوبیوں اور صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ باور کیا جاتا ہے کہ قائدین کو بعض منفرد اوصاف کی بنا پر غیر قائدین سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ اچھے قائدین کے اوصاف کی شناخت کچھ محققین نے کی ہے جنہیں باکس کے اندر دکھایا گیا ہے۔

وہ ان تبدیلیوں کی توضیح کرتا ہے اور لوگوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اس طرح وہ تبدیلی کے تئیں مزاحمت کی مشکلات پر قابو پالیتا ہے اور بے اطمینانی یا بے چینی پیدا نہیں ہونے دیتا۔

(iv) ایک قائد ٹکراؤ سے موثر طور پر نمٹتا ہے اور ٹکراؤ کے برے اثرات نہیں پیدا ہونے دیتا۔ ایک اچھا قائد ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو اختلاف رائے کے اظہار کی اجازت دیتا ہے لیکن انہیں اس بات کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنے اختلاف رائے کو مدلل طور پر اور مناسب انداز میں پیش کریں۔

(v) قائد اپنے ماتحتوں کو تربیت دیتا ہے۔ ایک اچھا قائد

ایک اچھے قائد کی خوبیاں

محققین نے مجموعی طور پر تقریباً 18,000 اوصاف (Traits) کی شناخت کی ہے۔ ایک اچھے قائد کے اوصاف کو بعض ماہرین نے مندرجہ ذیل لفظوں میں بیان کیا ہے:

توانائی، جذباتی استحکام، انسانی رشتوں کا علم، تحریک و ترغیب، ابلاغ، مہارت، تدریسی صلاحیت، سماجی مہارت اور تکنیکی استعداد۔

George Terry

زندگی اور قوت برداشت، قطعیت، قائل کرنے کی صلاحیت، برتاؤ میں استحکام، دانشورانہ صلاحیت اور علم۔

Chester Barnard

جسمانی اور اعصابی توانائی، جوشیلا پن، مقصد اور ہدایت کی فہم، تکنیکی مہارت، دوستانہ روش اور تعلق، قیمت۔

Ordway Tead

ہمت، قوت ارادی، قوت فیصلہ، چلک، علم اور دیانت داری۔

Vicout Slin

نگرانی کی اہمیت، جذبہ کامیابی، خود یقینی، ذہانت، خود اعتمادی، قطعیت

Ghiselli

ہمت، خود اعتمادی، اخلاقی خوبیاں، ایثار، سرپرستی، انصاف۔

Hill

فزیکل اور آئینی عوامل، توانائی، خود اعتمادی، فلسفہ، قوت ارادی، بالادستی

Stodgill

کرنا چاہیے کہ اس کے لیے مواقع پیدا ہوں بلکہ اسے مواقع خود پیدا کرنے چاہئیں اور ان کا استعمال تنظیم کے فائدے کے لیے کرنا چاہیے۔

(v) ترسیلی مہارتیں (Communication Skills): ایک قائد اور ترسیل و ابلاغ کا اچھا ماہر ہونا چاہیے۔ اس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خیالات و نظریات کی وضاحت کر سکے تاکہ اس کے نظریات لوگوں کی سمجھ میں آسکیں۔ وہ نہ صرف ایک اچھا بولنے والا ہو بلکہ اچھا سننے والا، استاد، صلاح کار اور ترغیب کار ہو۔

(vi) ترغیبی مہارتیں: ایک قائد کو موثر ترغیب کار ہونا چاہیے۔ اسے لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کی تسکین و تکمیل کے ذریعے ترغیب دینا چاہیے۔

(vii) خود اعتمادی: ایک قائد زبردست خود اعتمادی کا حامل ہونا چاہیے۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی اسے اعتماد نہیں کھونا چاہیے۔ درحقیقت اگر قائد میں اعتماد کی

(i) جسمانی خصوصیات: قد، وزن، صحت اور ظاہری شکل و صورت کسی فرد کی جسمانی شخصیت کا تعین کرتے ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اچھی جسمانی خصوصیات لوگوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہیں۔ صحت اور قوت برداشت کسی قائد کو سخت محنت سے کام کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ان سے لوگوں میں اسی رفتار عمل کے ساتھ کام کرنے کا جوش پیدا ہوتا ہے۔

(ii) علم: ایک اچھے قائد کو علم و لیاقت کا حامل ہونا چاہیے۔ صرف ایسے افراد ہی ماتحتوں کو صحیح طور پر ہدایات دے سکتے ہیں اور ان پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکتے ہیں۔

(iii) سالمیت: ایک قائد میں دیانت اور ایمان داری خوب ہونی چاہیے اسے اخلاقیات اور قدروں کے لحاظ سے دوسروں کے لیے مثالی کردار بننا چاہیے۔

(iv) پھل: ایک قائد میں جرأت اور پھل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اسے اس بات کا انتظار نہیں

HCL ٹکنالوجیز میں قیادت اور ٹیم ورک

HCL ٹکنالوجی نے کسی حد تک مینجمنٹ کے تئیں اختراعی نظریہ اپنایا ہے جہاں گاہکوں کے مقابلے ملازمین کو اول درجہ حاصل ہے۔ یہاں ہر ملازم اپنے باس، باس کے باس اور کم سے کم کمپنی کے تین دیگر مینجروں کے ساتھ 1 تا 5 کے پیمانے پر درجہ بند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نتائج آن لائن درج کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک دیکھ سکے۔

کمپنی محسوس کرتی ہے کہ مطمئن اور محفوظ ملازمین گاہک کی کامیابی پر زیادہ بہتر طور پر توجہ کر سکتے ہیں HCL نے ایک نئے مدبرانہ اتحاد کی تشکیل کی اور گاہکوں کے ساتھ شریکیت جو حکم کا ایک اختراعی انداز نظر اختیار کیا۔

بات یہ ہے کہ ہندوستانی کمپنیاں نہ صرف مینیجنگ طریقوں، ٹکنالوجیوں اور پیداواری طور طریقوں میں نئے نئے انداز اختیار کرتی ہیں بلکہ ان کے قائدین اور مینجمنٹ ملازمین کی توانائی سے بھرپور تخلیقی ٹیموں کی تشکیل پر غور و فکر کے ساتھ ساتھ گاہک کی کامیابی پر بھی توجہ مبذول کرتے ہیں۔

کیا ہوتی ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کو پُر اعتماد نہیں بنا سکتا۔

قیادت کے رویے اور انداز کے متعلق بہت سے تصورات پائے جاتے ہیں۔ تحقیقی مطالعوں سے ایسی کچھ تدابیر اور خصوصیات کا علم ہو پایا ہے جو ایک قائد میں ہونی ضروری ہیں۔ البتہ یہ کوئی حتمی خصوصیات نہیں ہیں کیوں کہ ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سی خصوصیات بہت سے لوگوں میں ہو لیکن وہ قائد نہ ہوں۔

قیادت کے انداز کی زمرہ بندی کئی طرح سے کی جا سکتی ہے۔ قائدانہ انداز کی سب سے مشہور زمرہ بندی اختیارات کے استعمال پر مبنی ہے۔ اختیارات کے استعمال کے مطابق قیادت کے تین بنیادی انداز پائے جاتے ہیں۔

- (i) آمرانہ (Autocratic)
- (ii) جمہوری (Democratic) اور
- (iii) عدم مداخلت (Laissez-faire)

(viii) قطعیت: قائد کو اپنے انتظام اور کام دونوں میں فیصلہ کن رخ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بار جب وہ کسی حقیقت کو تسلیم کر لے تو اسے اٹل ہونا چاہیے اور خیالات یا رائے کو بار بار نہیں تبدیل کرنا چاہیے۔

(ix) سماجی مہارتیں: ایک قائد کو اپنے ہمسر اور ماتحتوں کے ساتھ میل جول اور دوستانہ روش رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھے انسانی رشتے برقرار رکھنے چاہیے۔

تاہم ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سبھی اچھے قائدین میں ضروری نہیں ہے کہ یہ سبھی خوبیاں موجود ہوں۔ درحقیقت یہ ممکن نہیں کہ کسی فرد میں یہ ساری خوبیاں موجود ہوں۔ لیکن ان خوبیوں کو سمجھنے سے منجروں کی تربیت ہوتی ہے اور شعوری کوششوں کے ذریعے انہیں حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

ترسیل کی تعریفیں (Definitions of Communications)

ترسیل سے مراد ایک شخص کے ذریعے مجموعی طور پر اس وقت کیے جانے والے تمام کام ہیں جب کہ وہ کسی دوسرے کے ذہن میں سمجھ کو تخلیق کرنا چاہتا ہے یہ بتانے، سننے اور سمجھنے کے باقاعدہ اور مسلسل عمل پر مشتمل ہوتی ہے۔

لوئیس ایلن (Louis Allen)

ترسیل، مرسل سے وصول کنندہ کو معلومات کا تبادلہ ہے جس کے ساتھ ہی وصول کنندہ کے ذریعہ معلومات کو سمجھ لیا جاتا ہے۔

ہیرالڈ کونٹس اور ہینز ویبرج (Harold Koontz and Heniz Wehrich)

ترسیل ایک عمل ہے جس کے ذریعے لوگ ایک یکساں سمجھ پر پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کی تخلیق اور حصہ داری کرتے ہیں۔

راجرس (Rogers)

موثر ترسیل مینجمنٹ سے متعلق
کارکردگی بڑھادیتی ہے




بننے والے مال کی تعداد کو یقینی بنانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے
فوری فیصلہ سازی بھی خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔
البتہ اس میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، ممکن
ہے کہ وہ ہر ایک کی بات یا رائے سنتے ہوں، ماتحتوں کے
خیالات پر غور کرتے ہوں اور ان کی تشویش پر دھیان دیتے
ہوں لیکن ہر معاملے پر فیصلہ ان کا اپنا ہوتا ہو۔

(ii) جمہوری قائد

جمہوری قائد عمل آوری کے منصوبے بنائے گا اور اپنے ماتحتوں
کے صلاح و مشوروں سے فیصلے لے گا۔ وہ فیصلہ سازی میں
حصہ لینے کے لیے انہیں تحریک دے گا۔ قیادت کا یہ انداز ان
دنوں بہت عام ہے کیونکہ قائد بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ
اگر لوگوں کو اپنے مقاصد تعین کرنے کا موقع ملے تو وہ بہتر

(i) آمرانہ یا اختیار پر مبنی قائد

ایک آمر قائد حکم دیتا ہے اور اپنے ماتحتوں سے امید
کرتا ہے کہ وہ اس کے احکام بجالائیں گے۔ اگر کوئی مینیجر اس
انداز کو اپناتا ہو تو ترسیل یک طرفہ ہوگی کہ ماتحت مینیجر کے
دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہی کام کر رہے ہوں گے۔
یہ قائد کٹر ہے یعنی اپنے آپ کو بدلتا نہیں اور اسے یہ
بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کی بات سے اختلاف کرے۔ اس کا
برتاؤ اس قیاس پر مبنی ہے کہ سزا اور جزا دونوں کا فیصلہ صرف
نتیجے پر منحصر کرتا ہے۔ اس طرح کا قائدانہ انداز کئی خاص قسم
کی صورت حال میں پیداواریت کے حصول کے لیے موثر ہو
سکتا ہے۔ مثلاً کسی فیکٹری میں، جس میں کسی سپروائزر کی ذمہ
داری ہو وقت پر مال تیار کرانا اور مزدوروں کی جانب سے



ترسیلی عمل

کارکردگی انجام دیتے ہیں۔ ایسے قائد دوسروں کے صلاح و مشورے کا احترام کرتے ہیں اور اپنے ماتحتوں اپنے فرائض کی انجام دہی میں تعاون مہیا کرتے ہیں ساتھ ہی تنظیمی مقاصد کی تکمیل بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ گروپ کے اندرون زیادہ قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس پر زیادہ قابو رکھ پاتے ہیں۔

دیئے جانے والے کام کے تئیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ صورتحال کے مطابق کوئی قائد ضرورت کے تحت مذکورہ انداز کے امتیاز کو چن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ عدم مداخلت کا قائل قائد بھی ایسے ضابطے بنا سکتا ہے جن کی کام کے دوران پیروی کرنی ہے اور ایک جمہوری لیڈر ہنگامی صورتحال میں اپنے فیصلے لینے پر مجبور ہو سکتا ہے۔

ترسیل (Communication)

(iii) عدم مداخلت کا قائل قائد

اس طرح کے قائد اپنے اختیارات کے استعمال میں قطعی یقین نہیں رکھتے جب تک کہ اس کی انتہائی ضرورت پیش نہ آجائے۔ ماتحتوں کو اپنے مقاصد وضع کرنے اور انہیں حاصل کرنے کا طریقہ کار طے کرنے کی بے حد آزادی فراہم کرتا ہے اور انہیں تفویض کیے گئے ہدف کو مکمل کرنے کے لیے درکار معلومات مہیا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ماتحت انجام

ایک مینجر کی کامیابی میں ترسیل کا بہت اہم کردار ہے۔ کسی مینجر کے پاس کتنا بھی پیشہ وارانہ علم اور دانائی موجود ہو وہ اس وقت بے اثر بن جاتا ہے جب اپنے ماتحتوں کے ساتھ موثر طور پر ترسیل کرنے یا رابطہ رکھنے اور ان میں سمجھ پیدا کرنے کا اہل نہ ہو۔ کسی مینجر کی ہدایت کاری کی صلاحیتیں بطور خاص اس کی ترسیلی مہارتوں پر منحصر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تنظیم

- مرسل ترسیل کا وسیلہ ہے۔
- (ii) پیغام: یہ نظریات، احساسات، تجاویز، حکم وغیرہ کا وہ مواد ہے جس کے ترسیل کیے جانے کا ارادہ ہوتا ہے۔
- (iii) پیغام بندی: یہ کسی پیغام کو الفاظ تصاویر، اشارات (حرکات و سکناات) وغیرہ جیسی ترسیلی علامات میں منتقل کرنے کا عمل ہے۔
- (iv) میڈیا: یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعہ پیغام بند پیغام کو وصول کنندہ (Receiver) کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ چینل تحریری شکل، آئینے سامنے، فون کال، انٹرنیٹ وغیرہ کی شکل میں ہو سکتا ہے۔
- (v) کوڈ کشائی: یہ مرسل کی پیغام بند علامتوں کو منتقل کرنے کا عمل ہے۔
- (vi) وصول کنندہ: فرد جو مرسل کی ترسیل کو وصول کرتا ہے۔
- (vii) جوابی عمل (Feedback): اس میں وصول کنندہ کے وہ سبھی ایکشن شامل ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اس نے مرسل کے پیغام کو وصول کر لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔
- (viii) شور: شور کا مطلب ہے ترسیل میں کچھ خلل یا رکاوٹ۔ یہ رکاوٹ پیغام کے مرسل یا وصول کنندہ کے ساتھ واقع ہو سکتی ہے۔ شور کی کچھ مثالیں ہیں:
- (a) مبہم علامتیں جس سے پیغام بندی ناقص ہو جائے
- (b) کمزور ٹیلی فون کنکشن
- (c) غیر متوجہ یا غافل وصول کنندہ
- (d) ناقص کوڈ کشائی (پیغام کے لیے غلط معنی منسلک ہونا۔
- (e) ایسے نقصان دہ تعصبات جو سمجھنے میں رکاوٹ بنیں۔
- منجروں اور ملازمین کی ترسیلی مہارتوں کو بہتر بنانے پر زور دیتی ہے۔
- لفظ Communication (ترسیل) لاطینی لفظ 'Communis' سے اخذ کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب ہے مشترک یا عام (Common)۔ اسی بنا پر عام سوجھ بوجھ (Common understanding) پر دلالت کرتا ہے۔
- ترسیل کی تعریف مختلف انداز میں کی جاتی ہے۔ عام طور پر اسے نظریات، خیالات، حقائق، احساسات وغیرہ کے تبادلے کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے درمیان عام سوجھ بوجھ پیدا کرنے سے متعلق ہیں۔
- مینجمنٹ کے ماہرین نے کچھ تعریضیں بیان کی ہیں جو باکس میں پیش کی گئی ہیں۔
- درج بالا تعریضوں کے عمیق جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ترسیل سے دو یا زیادہ افراد کے درمیان معلومات کے تبادلے تاکہ یہ افراد ایک مشترکہ فہم (Common Understanding) پر پہنچ سکیں۔
- ترسیلی عمل کے عناصر**
- ترسیل کی تعریف ایک عمل (Process) کے طور پر لی گئی ہے۔ اس عمل میں ذریعہ، پیغام بندی (Encoding)، میڈیا/چینل، وصول کنندہ، کوڈ کشائی (decoding)، شور اور فیڈ بیک یا جوابی عمل شامل ہے۔ اس عمل کو ذیل میں دیے گئے گراف میں سمجھایا گیا ہے۔
- ترسیلی عمل میں وہ عناصر شامل ہیں جن کی وضاحت درج ذیل ہے:
- (i) مرسل (Sender): مرسل کا مطلب وہ فرد ہے جو اپنے خیالات یا نظریات وصول کنندہ کو بھیجتا ہے۔

(f) ایسے حرکات و سکنات جو پیغام کو خراب کر دیں۔

ترسیل کی اہمیت

ترسیل مینجمنٹ سرگرمیوں کا ایک نہایت بنیادی پہلو ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا کہ کوئی مینجر ترسیل کرنے، پڑھنے، لکھنے، سننے، رہنمائی کرنے، ہدایت دینے، منظوری دینے، سرزنش کرنے وغیرہ میں اپنا 90 فی صد وقت خرچ کرتا ہے۔

مینجر کی موثریت بڑی حد تک اپنے اعلیٰ افسروں، ماتحتوں، بینک کاروں، سپلائروں، یونین اور حکومتوں جیسی بیرونی ایجنسیوں کے ساتھ موثر طور پر ترسیل کرنے کی اس کی اہلیت پر منحصر ہے۔

امریکن مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے ایک سابق صدر نے ایک بار مشاہدہ کیا تھا کہ آج کل مینجمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ترسیل کا ہے۔ برنارڈ نے اسے کل اجتماعی سرگرمیوں کی بنیاد کہا ہے۔ ترسیل مینجمنٹ کے تمام کاموں کو خوش اسلوبی اور سہولت کے ساتھ انجام دینے میں معاون ہے۔ مینجمنٹ میں ترسیل کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل سے کیا جاسکتا ہے:

(i) ترسیل، تال میل کی اساس ہے: ترسیل کا کام تال میل قائم کرنا ہے۔ یہ مختلف شعبوں، سرگرمیوں اور افراد کے درمیان تال میل بناتی ہے۔ تال میل، تنظیمی مقاصد، مقاصد کے حصول کے طریقہ کار اور مختلف افراد کے درمیان باہمی رشتوں وغیرہ کی وضاحت سے وجود میں آتا ہے۔

(ii) ترسیل، کسی انٹرپرائز کے کام کو بہتر طور پر چلانے میں مددگار ہوتی ہے: ترسیل کسی

کاروباری ادارے کے سازگار اور آزادانہ کام کو ممکن بناتی ہے۔ یہ صرف ترسیل ہی ہے جو کاروباری مہم کے کام کو سازگار بنانا ممکن کرتی ہے۔ تنظیم کے تمام امور کی انجام دہی ترسیل پر منحصر ہے۔ مینجر کا کام یہ ہے کہ وہ تنظیم کے انسانی اور طبعی عناصر کو ایک فعال اور مفید عملی اکائی میں تبدیل کر دے تاکہ مشترکہ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ یہ ترسیل ہی ہے جس سے انٹرپرائز کے کام خوش اسلوبی سے انجام پاجاتے ہیں۔ اول سے آخر تک کسی تنظیم کے وجود کی بنیاد ترسیل ہی ہے۔ جب ترسیل ختم ہو جاتی ہے تو تنظیم کی سرگرمی بھی ختم ہو جاتی ہے۔

(iii) ترسیل، فیصلہ سازی کی اساس ہے: ترسیل فیصلہ سازی کے لیے ضروری معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں مینجروں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی با معنی فیصلہ کر سکیں۔ متعلقہ معلومات کی بنیاد پر کوئی شخص صحیح فیصلہ لے سکتا ہے۔

(iv) ترسیل، مینجمنٹ کی کارکردگی کو بڑھاتی ہے: مینجمنٹ کے جملہ کاموں کی تیز تر اور بہتر انجام دہی کے لیے، ترسیل بہت ضروری ہے۔ مینجمنٹ اہداف و مقاصد کی ترسیل کرتا ہے، ہدایات جاری کرتا ہے، لوگوں کو ذمے داریاں اور فرائض منصبی لوگوں کو سونپتا ہے اور ماتحتوں کے کاموں کی نگرانی کرتا ہے، ترسیل کا ان تمام کاموں کی انجام دہی میں اہم کردار ہے۔ یہ تنظیم کے تمام امور کی انجام دہی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے اور تنظیمی کاموں کی کارکردگی کو بہتر اور موثر بناتی ہے۔

مینجمنٹ کی شرکی اور جمہوری وضع کی بنیاد ہے۔
ترسیل ملازمین اور مینجروں کا حوصلہ بڑھانے میں
مدد کرتی ہے۔

رسمی اور غیر رسمی ترسیل (Formal and Infomal Communication)

کسی تنظیم میں واقع ہونے والی ترسیل کو موٹے طور پر رسمی اور
غیر رسمی ترسیل میں درجہ بند کیا جاسکتا ہے۔


رسمی ترسیل

رسمی ترسیل کا بہاؤ تنظیم کے چارٹ میں وضع کیے گئے باضابطہ
چینلوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ ترسیل ایک اعلیٰ عہدے دار
اور ماتحت کے، ایک ماتحت اور اعلیٰ عہدے دار یا ایک ہی
درجے کے ملازمین یا مینجروں کے درمیان واقع ہو سکتی ہے۔
ترسیل زبانی یا تحریری ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر یہ دفتر میں
درج کی جاتی ہے اور اسے فائل کیا جاتا ہے۔
رسمی ترسیل کو مزید عمودی اور افقی میں درجہ بند کیا
جاسکتا ہے۔

(v) تعاون اور صنعتی امن کو فروغ دیتی ہے: ہر
دور اندیش مینجمنٹ کا مقصد کاموں کی بہتر انجام دہی
ہے۔ یہ صرف تبھی ممکن ہے جب فیکٹری میں صنعتی
امن ہو اور مینجمنٹ اور ورکر کے درمیان باہمی تعاون
ہو۔ دوطرفہ ترسیل مینجمنٹ اور ورکر کے درمیان تعاون
اور حسن مفاہمت کو فروغ دیتی ہے۔

(vi) موثر قیادت قائم کرتی ہے: ترسیل قیادت کی
بنیاد ہے۔ موثر ترسیل ماتحتوں پر اثر انداز ہونے میں
مددگار ہوتی ہے۔ لوگوں پر اثر انداز ہوتے وقت قائد
کو اچھی ترسیل مہارتوں کا حامل ہونا چاہیے۔

(vii) حوصلہ بڑھاتی ہے اور ترغیب و تحریک
فراہم کرتی ہے: ترسیل کا ایک موثر نظام ماتحتوں
کو ترغیب دینے، ان پر اثر انداز ہونے اور ان کو
تسکین پہنچانے کا اہل بنانا ہے۔ اچھی ترسیل ورکرس
کو کام کے مادی اور سماجی پہلو کے ساتھ ہم آہنگ
کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ یہ کسی صنعت میں
اچھے انسانی رشتوں کو مزید بہتر بناتی ہے۔ ترسیل



ترسیلی نیٹ ورک

- اپنے ماتحت کی طرف بہتی ہے۔
- (ii) پھیلتا: پھیلتا نیٹ ورک میں سبھی ماتحت صرف ایک اعلیٰ عہدے دار کے ذریعہ ترسیل کرتے ہیں کیوں کہ وہ پیسے کے ایک ڈھیرے یا مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ ماتحتوں کو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔
- (iii) دائری: دائری نیٹ ورک میں ترسیل ایک دائرے میں حرکت کرتی ہے۔ ہر شخص دوا افراد کو ملاتے ہوئے اس کے ساتھ ترسیل کر سکتا ہے۔ اس نیٹ ورک میں بہاؤ دھیمہ ہوتا ہے۔
- (iv) آزاد بہاؤ (Free Flow): اس نیٹ ورک میں ہر شخص دوسروں کے ساتھ آزادانہ ترسیل کر سکتا ہے۔ اس نیٹ ورک میں ترسیل کا بہاؤ تیز ہوتا ہے۔
- (v) معکوس V: اس نیٹ ورک میں ایک ماتحت کو اپنے قریبی باس کے ساتھ اور باس کے باس کے ساتھ بھی ترسیل کی اجازت ہوتی ہے۔ تاہم آخری صورت میں صرف مجوزہ ترسیل ہو سکتی ہے۔

غیر رسمی ترسیل

ترسیل کے رسمی خطوط کی پابندی کیے بغیر جو ترسیل ہوتی ہے اسے غیر رسمی ترسیل کہا جاسکتا ہے۔ ترسیل کے نظام معلومات کو انگور کی بیل (grapevine) کے طور پر جانا جاتا ہے کیوں کہ یہ پوری تنظیم میں اپنی شاخوں کے ساتھ حکام کی سطحوں سے قطع نظر ہر سمت میں پھیلتی ہے۔

غیر رسمی ترسیل ملازمین کے تبادلہ خیالات کی ضرورتوں کے سبب پیدا ہوتی ہے جو رسمی چینلوں کے ذریعے انجام نہیں دی

عمودی ترسیل کا بہاؤ رسمی چینلوں کے ذریعہ عمودی یعنی اوپر کی جانب یا نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ اوپر کی جانب ترسیل ماتحت سے اعلیٰ عہدے دار کی طرف ہوتی ہے جب کہ نچلی جانب ترسیل اعلیٰ عہدے دار سے ماتحت کی طرف ہوتی ہے۔ اوپر کی جانب ترسیل کی مثالیں ہیں: چھٹی کی منظوری کے لیے درخواست، پروگریس رپورٹ جمع کرنا، مالی امداد کے لیے درخواست۔ اسی طرح نچلی جانب ترسیل کی مثالیں ہیں:

ملازمین کو میٹنگ کے لیے نوٹس بھیجنا، کسی مفوضہ کام کو پورا کرنے کے لیے ماتحتوں کو حکم دینا، اعلیٰ مینجمنٹ کے ذریعے وضع کیے گئے رہنما اصولوں کو ماتحتوں وغیرہ تک پہنچانا۔

افقی یا جانبی ترسیل (Horizontal or Lateral Communication) تنظیم کے مختلف شعبوں کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پروڈکشن مینجر، مارکیٹنگ مینجر سے کسی پروڈکٹ کی نکاسی، اس کے ڈیزائن یا اس کے معیار وغیرہ کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔

جس پیٹرن پر کسی تنظیم میں ترسیل کام کرتی ہے اسے عام طور پر ترسیلی نیٹ ورک کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی ترسیلی نیٹ ورک کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں۔ اوپر دی گئی شکل میں کچھ ترسیلی نیٹ ورک پیش کیے گئے ہیں جن پر ذیل میں بحث کی گئی ہے۔

- (i) تنہا ذنجیر: یہ نیٹ ورک سپروائزر اور اس کے ماتحتوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ چوں کہ کسی تنظیمی ساخت میں مختلف سطحوں موجود ہوتی ہیں اس لیے ترسیل تنہا زنجیر کے ذریعے پر اعلیٰ عہدے دار سے

(Gossip Network) میں ہر شخص ہر ایک کے ساتھ کسی موضوع گفتگو کو منتخب کیے بغیر ترسیل کرتا ہے۔ احتمالی نیٹ ورک (Probability Network) میں فرد دیگر فرد کے ساتھ یوں ہی (بے سوچے سمجھے) ترسیل کرتا ہے۔ کلسٹر میں فرد صرف ان چار قسم کے نیٹ ورک کے انھیں لوگوں کے ساتھ ترسیل کرتا ہے جن پر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ کلسٹر تنظیم میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔

ترسیل میں رکاوٹیں

عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ترسیل کے بگڑ جانے یا رکاوٹوں کے سبب مہجروں کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رکاوٹیں ترسیل کو روک سکتی ہیں۔ یا اس کے کچھ حصوں میں کتر بیونت کر سکتی ہیں یا غلط فہمی پیدا ہونے کے سبب نادرست معنی نکالے جاسکتے ہیں۔ لہذا مہجر کے لیے یہ اہم ہے کہ ایسی رکاوٹوں کی شناخت کر کے ان پر قابو پانے کے اقدامات کرے۔

تنظیم میں ان رکاوٹوں کو موٹے طور پر معنیاتی (Semantic) رکاوٹوں، نفسیاتی رکاوٹوں، تنظیمی رکاوٹوں اور ذاتی رکاوٹوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ذیل میں ان پر مختصراً بحث کی گئی ہے۔

معنیاتی رکاوٹیں: معنیات لسانیات کی ایک شاخ ہے جس میں الفاظ اور جملوں کے معنی سے بحث کی جاتی ہے۔ معنیاتی رکاوٹیں الفاظ کی پیغام بندی (Encoding) اور پھر ان کی پیغام کشائی (Decoding) کے عمل میں پیدا ہونے

جاسکتی۔ ورکرس کینیٹن میں اپنے سپیریئر کے برتاؤ کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، کچھ افواہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں مثلاً یہ کہ فلاں فلاں ملازم کا تبادلہ ہو سکتا ہے وغیرہ، غیر رسمی ترسیل کی یہ کچھ مثالیں ہیں۔ انکو کی بیل یعنی غیر رسمی ترسیل تیزی سے پھیلتی ہے اور کبھی کبھی اس میں تحریف ہو جاتی ہے۔

اس طرح کی ترسیل کے ذریعے مخرج (Source) کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اس قسم کی ترسیل سے افواہیں بھی پیدا ہوتی ہیں جو مستند نہیں ہوتیں۔ افواہوں اور غیر رسمی بات چیت سے لوگوں کے رویے متاثر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کام کے ماحول میں خلل انگیز ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی گریپ وائن چینل مددگار بھی ہو سکتے ہیں کیوں کہ یہ تیزی کے ساتھ معلومات پہنچاتے ہیں جو کبھی کبھی مہجر کے لیے مفید ہوتی ہے۔ غیر رسمی چینلوں کا استعمال مہجروں کے ذریعے ترسیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس طرح وہ اپنے ماتحتوں کے رد عمل کو جان سکتے ہیں۔ ذہین مہجروں کو غیر رسمی چینلوں کے مثبت پہلوؤں کا استعمال اور ترسیل کے اس چینل کے منفی پہلوؤں کو کم سے کم کرنا چاہیے۔

گریپ وائن ذرائع نیٹ ورک

(Grapevine Network)

گریپ وائن ترسیل کے مختلف نیٹ ورک ہو سکتے ہیں۔ ان میں کچھ نیٹ ورک نیچے دی گئی شکل میں دکھائے گئے ہیں۔

تنہا لڑی دار نیٹ ورک (Single Trand Network) میں ہر شخص ایک معین ترتیب میں ایک دوسرے کے ساتھ ترسیل کرتا ہے۔ گپ شپ نٹ ورک

(c) کمپیوٹر سیکھنے کی کیا قدر ہے؟
آپ پائیں گے کہ مختلف سیاق میں 'قدر' کے
الگ الگ معنی ہیں۔ غلط تفہیم ترسیلی مسائل پیدا
کر سکتی ہے۔

(iii) ناقص ترجمے: کبھی کبھی ترسیل کو اصلاً ایک زبان
(جیسے انگریزی) میں تیار کیا جاتا ہے جسے وکرس کی
اپنی زبان (جیسے ہندی) میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگر
مترجم دونوں زبانوں میں ماہر نہیں ہے تو ترسیل میں
مختلف معنی پیدا ہو سکتے ہیں۔

(iv) غیر واضح مفروضات: ترسیل کے مختلف
مفروضات ہو سکتے ہیں جن کی مختلف تشریحات ہو سکتی
ہیں۔ مثال کے لیے ایک باس اپنے ماتحت کو ہدایت
دے سکتا ہے کہ ہمارے مہمان کا خیال رکھیں۔ "باس
کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک مہمان رہے
ماتحت اس کی آمدورفت، غذا اور رہائش وغیرہ کا خیال

والے مسائل اور رکاوٹوں سے متعلق ہیں۔ عام طور پر ایسی
رکاوٹیں غلط الفاظ یا ناقص ترجمے، یا متضاد تشریحات وغیرہ کے
نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ ذیل میں ان پر بات کی گئی ہے۔

(i) پیغامات کا نادرست اظہار: کبھی کبھی پیچھے معنی


مقصود اپنے ماتحتوں کو نہیں پہنچا پاتے۔ پیغامات کا غلط
اظہار ناکافی ذخیرہ الفاظ، الفاظ کے غلط استعمال،
ضروری الفاظ کے حذف اور غیر ضروری الفاظ کے
اضافے کے سبب ہوتا ہے۔

(ii) الفاظ کے مختلف معانی: ایک لفظ کے کئی معنی


ہو سکتے ہیں۔ وصول کنندہ کو مرسل کے ذریعہ استعمال
کیے گئے ایسے ہی معنی کو سمجھنا ہوتا ہے۔ مثال کے لیے
ان تین جملوں پر غور کریں جہاں لفظ، قدر، کا استعمال
کیا گیا ہے۔

(a) اس اگٹھی کی قدر کیا ہے؟ (قیمت)


(b) میں اپنی دوستی کی قدر کرتا ہوں۔



واحد قائمہ نیٹ ورک



امکانی نیٹ ورک



کثیر نیٹ ورک

گریپ وائن ترسیلی نیٹ ورک



توسیلی گریپ وائن

و حرکت اور اشارات پیغام کو پہنچانے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جو کچھ زبان سے کہا گیا ہے اور جو کچھ جسمانی حرکات و اشارات سے معلوم ہوا ہے ان سے معلوم ہوا ہے ان میں یکسانیت نہیں ہے تو پیغام کا مطلب غلط بھی سمجھا جاتا ہے۔

نفسیاتی رکاوٹیں (Psychological Barriers): جذباتی یا نفسیاتی عوامل پیغام بھیجنے والوں کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ مثال کے لیے ایک فکر مند شخص ٹھیک سے ترسیل نہیں کر سکتا اور ایک غصے میں مبتلا وصول کنندہ پیغام کے حقیقی معنی کو نہیں سمجھ سکتا۔ ترسیل کے مرسل اور وصول کنندہ دونوں کی ذہنی کیفیت موثر ترسیل میں ظاہر ہو جاتی

رکھے۔ ماتحت اس کی توضیح یہ کر سکتا ہے کہ مہمان کو پوری دیکھ بھال کے ساتھ ہوٹل لے جانا چاہیے۔ درحقیقت مہمان ان غیر واضح مفروضات کے سبب پریشانی میں پڑ سکتا ہے۔

(v) تکنیکی زبان: عام طور پر دیکھا گیا کہ ماہرین تکنیکی اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ افراد جو متعلقہ میدان میں مہارت نہیں رکھتے کہ ایسے بہت سے الفاظ کے حقیقی معنی نہیں سمجھ پاتے۔

(vi) جسمانی حرکات و سکناات کی کوڈ کشائی (Decoding): جسم کی ہر نقل و حرکت کچھ معنی کی ترسیل کرتی ہے۔ مرسل کی جسمانی نقل

- ہے۔ کچھ نفسیاتی رکاوٹیں ہیں:-
- (i) قبل از وقت معنی کا تعین: کبھی کبھی لوگ مرسل کے اپنے پیغام کو مکمل ہونے سے پہلے پیغام کے معنی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ معنی کا اس طرح عاجلانہ تعین ترسیل کے خلاف میلان خاطر کے سبب ہو سکتا ہے۔
- (ii) توجہ کی کمی: وصول کنندہ کے غائب دماغ ہونا اور نتیجتاً پیغام کو ڈھنگ سے نہ سننا بھی ایک بہت بڑی نفسیاتی رکاوٹ ہے۔ مثال کے لیے ایک ملازم باس سے اپنے کچھ مسائل کا اظہار کرتا ہے۔ باس ایک فائل میں منہمک ہے۔ باس پیغام کو نہیں سمجھ پاتا اور ملازم مایوس ہوتا ہے۔
- (iii) ابلاغ کی کمی اور کمزور قوت حافظہ: جب ترسیل مختلف سطحوں کے ذریعے گزرتی ہے تو پیغام کا نتیجہ نادرست معلومات کی ترسیل ہوتا ہے۔ زبانی ترسیل میں ایسا زیادہ ہو سکتا ہے۔ کمزور قوت حافظہ ایک اور مسئلہ ہے۔ عام طور پر لوگ اگر غافل ہیں یا توجہ نہیں دے رہے ہیں یا دلچسپی نہیں لے رہے ہیں تو ایک لمبے عرصے تک معلومات کو یاد نہیں رکھ سکتے۔
- (iv) بے اعتمادی: مرسل اور وصول کنندہ کے درمیان بے اعتمادی بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر فریقین ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے تب وہ اصل مفہوم میں ایک دوسرے کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے۔
- تنظیمی رکاوٹیں (Organisational Barriers): تنظیم کی ساخت، حکام کے رشتے، قواعد و ضوابط سے متعلق عوام کبھی کبھی موثر ترسیل میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ رکاوٹیں درج ذیل ہیں:
- (i) تنظیمی پالیسی: اگر تنظیمی پالیسی صراحتاً یا کنائیہ ترسیل کے آزادانہ بہاؤ کے لیے معاون نہ ہو تو یہ ترسیل کی اثر انگیزی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مثال کے لیے کسی ایسی تنظیم میں جس کا مضبوط مرکزی نظام ہو، ممکن ہو لوگوں کو آزادانہ ترسیل کی آزادی حاصل ہو۔ قواعد و ضوابط: سخت قواعد و ضوابط اور بے ٹکا طریقہ کار بھی ترسیل کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح مجوزہ چینل کے ذریعے ترسیل بھی تاخیر کا سبب بنتی ہے۔
- (ii) حیثیت: اعلیٰ عہدے دار کی حیثیت اس کے اور اس کے ماتحتوں کے درمیان نفسیاتی دوری پیدا کر سکتی ہے۔ عہدے کا احساس رکھنے والا مینجر اپنے ماتحتوں کو ان کے احساسات کے آزادانہ اظہار کی اجازت نہیں دے سکتا۔
- (iii) تنظیمی ساخت میں پیچیدگی: کسی تنظیم میں جہاں مینجمنٹ کی متعدد سطحیں ہوتی ہیں، ترسیل میں تاخیر ہو سکتی ہے کیوں کہ پیغامات کی چھان پھٹک کئی جگہ ہونے سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔
- (iv) تنظیمی سہولیات: اگر صاف ستھری، واضح اور بروقت ترسیل کی سہولت نہیں فراہم کی گئی تو ترسیل میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بار بار میٹنگوں کا انعقاد، صندوق تجاویز اور صندوق شکایات کا اہتمام، سماجی و ثقافتی اجتماع اور کام میں شفافیت پیدا کرنے جیسی سہولیات ترسیل کے آزادانہ بہاؤ کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ ان سہولیات کی کمی کے سبب ترسیلی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
- ذاتی بندشیں (Personal Barriers): مرسل اور وصول کنندہ دونوں کے ذاتی عوامل موثر ترسیل پر اثر انداز

مسائل کی ترسیل ماتخوں کو کی جانی ہے وہ ہر لحاظ سے خود ایگزیکٹیو پر واضح ہونے ضروری ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پورے مسئلے کا گہرائی سے مطالعہ و تجزیہ کیا جائے اور اس طرح بیان کیا جائے کہ ماتخوں تک بالکل واضح شکل میں بات پہنچے۔

ترسیل وصول کنندہ کی ضرورتوں کے مطابق ہونی چاہیے: وصول کنندہ کے فہم و ادراک کی سطح مرسل کے لیے بالکل واضح ہونی چاہیے۔ منیجر کو اپنے ماتخوں کی تعلیم اور ان کے فہم و شعور کے مطابق ہی ترسیل کرنی چاہیے۔

ترسیل کیے جانے سے پہلے دوسروں سے مشورہ: پیغام کی اصل ترسیل سے پہلے، یہ بہتر ہے کہ ترسیل کے لیے منصوبہ فروغ دینے میں دوسروں کو شامل کیا جائے۔ ماتخوں کی شرکت اور قبولیت کے لیے ان کی آمدگی مددگار ہو سکتی ہے۔

پیغام کی زبان، لہجے اور مواد کے بارے میں بیداری: پیغام کا مضمون، لب و لہجہ اور زبان موثر ترسیل کے اہم پہلو ہیں۔ زبان وصول کنندہ کے لیے قابل فہم ہونی چاہیے اور سننے والوں کے جذبات کو چوٹ پہنچانے والی نہیں ہونی چاہیے۔ پیغام ایسا ہونا چاہیے جو سننے والوں پر اثر کرے اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔

بھیجا جانے والا مواد سامعین کے لیے مفید اور قدر و قیمت کا حامل ہونا چاہیے: دوسروں کو

ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ عہدے داروں اور ماتخوں کی کچھ ذاتی رکاوٹیں درج ذیل ہیں:

(i) حکام کو چیلنج کا خوف: اگر کوئی اعلیٰ عہدے دار یہ سمجھتا ہے کہ فلاں ترسیل اس کے اقتدار پر خراب اثر ڈال سکتی ہے تو وہ اس ترسیل کو روک سکتا ہے۔

(ii) اعلیٰ عہدے دار کا اپنے ماتحتوں پر بھروسہ نہ ہونا: اگر اعلیٰ عہدے دار کو اپنے ماتخوں کی اہلیت پر اعتماد نہیں ہے تو وہ ان کی صلاح یا رائے نہیں حاصل کرنا چاہے گا۔

(iv) ترسیل کی عدم دلچسپی: کبھی کبھی ماتحت اپنے اعلیٰ افسروں کے ساتھ ترسیل کے لیے آمادہ نہیں ہو پاتے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب انہیں لگتا ہے کہ اس سے ان کے مفادات پر خراب اثر پڑ سکتا ہے۔

(v) موزوں ترغیبات کی کمی: اگر ترسیل کے لیے کوئی ترغیب یا تحریک نہیں ہے تو ماتحت ترسیل کے لیے پہل نہیں کریں گے۔ مثال کے لیے اگر اچھی تجویز کے لیے کوئی صلہ یا ستائش نہیں ہے تو ماتحت مفید تجاویز دینے میں تامل کر سکتے ہیں۔

ترسیلی اثر انگیزی کو بہتر بنانا (Improving

Communication Effectiveness)

موثر ترسیل میں رکاوٹیں سبھی تنظیموں میں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہیں۔ جو تنظیمیں موثر ترسیل کو فروغ دینا چاہتی ہیں انہیں رکاوٹوں پر قابو پانے اور ترسیل کو موثر بنانے کے لیے موزوں اقدامات کرنے چاہئیں۔ ایسے ہی کچھ اقدامات درج ذیل ہیں:

(i) ترسیل سے قبل نظریات کی وضاحت: جن

- (vii) پیغام دیتے وقت ان لوگوں کے مفادات اور ضرورتوں کو بھی جاننا ضروری ہے جن کو پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ اگر پیغام ایسے مفادات اور ضرورتوں سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر متعلق ہوں تو ترسیل یقینی طور پر اچھے نتائج پیدا کرے گی۔
- (vi) مناسب جوابی عمل کو یقینی بنائیں (Ensure proper feedback) : ایک مرسل، بھیجے گئے پیغامات سے متعلق سوالات پوچھ کر، ترسیل کی کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ پیغام حاصل کرنے والے کی بھی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وہ بھیجے گئے پیغام پر اپنا بہتر رد عمل ظاہر کرے۔ پیغام پانے والے کی طرف سے ملنے والا جواب ترسیل کے بہتر عمل کا ضامن ہے۔
- (viii) ترسیل کی تعقیب (Follow up): ماتحتوں کو دی گئی ہدایات کی باضابطہ تعقیب اور اس کا پابندی سے جائزہ لینا چاہیے۔ ایسے اقدامات ہدایات کے اطلاق میں رکاوٹ کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
- (ix) اچھے سامعین بنیں: منیجر کو اچھا سامع ہونا چاہیے۔ صبر و تحمل کے ساتھ توجہ کے ساتھ بات سننے سے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ منیجروں کو اپنے ماتحتوں کی بات سننے میں بھی دلچسپی ظاہر کرنی چاہیے۔

کلیدی اصطلاحات

ہدایت کاری (Directing)	ترسیل (Communication)
نگرانی (Supervision)	پیغام بندی (Encoding)
پیغام کشائی (Decoding)	ترغیبات (Incentives/Motivators)
بازری رفیڈ بیک (Feedback)	خود شناسی (Self-Actualization)
معنیات (Semanticism)	خود پسندانہ ضروریات (Egoistic Needs)
رسمی ترسیل (Formal Communication)	قیادت (Leadership)
غیر رسمی ترسیل (Informal Communication)	نظریہ صفات (Trait Approach)
مساوی شرکت (Copartnership)	منافع میں شرکت (Profit sharing)
اسٹاک آپشن (Stock Option)	کوالٹی دائرے (Quality Circles)

خلاصہ

ہدایت کاری مینجمنٹ سے متعلق ایک پیچیدہ عمل ہے جو ان سبھی سرگرمیوں پر مشتمل ہے جو ماتحتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وضع کی گئی ہیں تاکہ وہ موثر طور پر کام کریں۔ اس میں نگرانی، تحریک، ترسیل اور قیادت شامل ہے۔ موثر ہدایت کاری کے رہنما اصول کی درجہ بندی دو طرح کے اصولوں میں کی گئی ہے یعنی ایک وہ اصول جو مقصد ہدایت کاری سے متعلق ہے اور دوسرا وہ جو عمل ہدایت کاری سے متعلق ہے۔

نگرانی: یہ ہدایت کا ایک عنصر ہے۔ یہ ایک عمل (Process) بھی ہے اور نگرانی کے ذریعے انجام دیے جانے والے فنکشن (Functions) بھی۔ نگرانی کا کام بہت اہم ہے کیوں کہ یہ کام کی نگرانی اور رہنمائی سے جڑی ہوئی ہے اور اس سے یہ بات بھی یقینی ہو جاتی ہے کہ ورکر اور ملازمین اپنے اہداف کی تکمیل میں مصروف ہیں۔

ترغیب: ترغیب تنظیم میں لوگوں کو کام کرنے اور مطلوبہ مقاصد کی تکمیل کے لیے ابھارتی ہے۔ یہ کسی فرد کا اندرونی احساس ہے اور اس کا نتیجہ براہ راست مقصدی برتاؤ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ترغیب بطور خاص افراد کی ضرورتوں پر مبنی ہے۔ اس سے تنظیم کے افراد اور گروپ کی بہتر کارکردگی میں مدد ملتی ہے۔

نیجری مالی اور غیر مالی دونوں طرح کی ترغیبات پیش کرتا ہے۔ مالی ترغیبات روپیے کی شکل میں ہوتی ہیں۔ تنخواہ، بونس، منافع میں شرکت، پینشن وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ غیر مالی ترغیبات سماجی اور نفسیاتی سکون کا سامان بہم پہنچاتی ہیں۔ ان میں مقام و منزلت، عہدے میں ترقی، عہدے کی ذمہ داری، ملازمت میں بہتری، عہدے کا اعتراف، نوکری کا تحفظ، ملازم کی اہم امور میں شرکت، نمائندگی اور اختیارات وغیرہ شامل ہیں۔ ترغیب کا ایک اہم نظریہ ماسلو کا ضرورت کی درجہ بندی نظریہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق جو ترغیب فراہم کی جاتی ہے وہ نوعیت کے اعتبار سے سلسلہ مدارج میں ہوتی ہے۔ اس سلسلہ مدارج کو نفسیاتی ضرورتوں، حفاظتی ضرورتوں، سماجی ضرورتوں، خود پسندانہ ضرورتوں اور خود شناسی کی ضرورتوں میں درجہ بند کیا جاسکتا ہے۔ اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ ضرورت کی تکمیل بہت کم ترغیب پیدا کرتی ہے اور صرف اعلیٰ سطح کی ضرورت کسی فرد کو متحرک کر سکتی ہے۔ یہ نظریہ آج بھی بر محل ہے کیوں کہ اس میں ان ضرورتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو ترغیب کے لیے بنیاد ہیں۔

قیادت: کسی کاروباری ادارے کے عمل میں قیادت نہایت اہم عامل ہے۔ یہ وہ عمل کاری ہے جو اجتماعی مقاصد کے لیے لوگوں کو رضا کارانہ طور پر محنت اور جدوجہد کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اچھے قائد کی خوبیوں کی تحقیق بہت سے ماہرین نے کی ہے۔ اچھے قائد کی بعض خوبیوں میں ہمت، قوت ارادی، فیصلہ علم، دیانت داری، جسمانی توانائی، سالمیت، اخلاقی خوبیاں، منصفانہ خوبیاں، قوت حیات، قطعیت، سماجی مہارتیں وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن یہ سبھی خوبیاں ایک فرد میں موجود نہیں ہو سکتیں اور نہ ہی ہمیشہ اس کی کامیابی میں مدد کرتی ہیں۔

ترسیل: افراد کے درمیان نظریات یا خیالات کے تبادلے اور تفہیم کا عمل ہے۔ ترسیلی عمل میں ذریعہ عناصر، پیغام بندی، چینل، وصول کنندہ، پیغام کشائی اور جوابی عمل شامل ہے۔ تنظیموں میں رسمی اور غیر رسمی ترسیل ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ رسمی ترسیل میں تمام احکامات میمو، اپیلیں، نوٹ، سرکلر (گشتی چٹھی)، ایجنڈے، روداد وغیرہ شامل ہیں۔ رسمی ترسیل کے علاوہ غیر رسمی یا گریپ وائین ترسیل بھی ہوتی ہے۔ غیر رسمی ترسیل عام طور پر افواہوں، کانا پھوسی وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ غیر دفتری، بے ساختہ، غیر اندراجی ہوتی ہیں اور بہت تیز پھیلتی ہیں اور عام طور پر مسخ شدہ شکل میں ہوتی ہیں۔ ایک منیجر کو غیر رسمی ترسیل کے ساتھ بھی تطابق کرنا سیکھنا چاہیے۔ تنظیموں میں موثر ترسیلوں کے لیے متعدد رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ رکاوٹوں میں معنیا تی رکاوٹیں، تنظیمی رکاوٹیں، زبان سے متعلق رکاوٹیں، ترسیل سے متعلق رکاوٹیں، نفسیاتی رکاوٹیں اور ذاتی رکاوٹیں شامل ہیں۔ منیجر کو ان رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے مناسب اقدامات کرنے چاہئیں اور تنظیم میں موثر ترسیل کو فروغ دینا چاہیے۔

مشق

متبادل جواب والے سوالات

- 1- درج ذیل میں کون سا ہدایت کا عنصر نہیں ہے؟
 (a) ترغیب (b) ترسیل
 (c) وفد (d) نگرانی
- 2- سلسلہ مدارج میں ضرورتوں کی درجہ بندی کرنے والے نظریہ ترغیب کو کس نے فروغ دیا ہے؟
 (a) فریڈ لوٹھن (b) اسکاٹ
 (c) ابراہم ماسلو (d) پیٹر ایف ڈرکر
- 3- درج ذیل میں کون سی مالی ترغیب ہے؟
 (a) ترقی (b) حصص سے متعلق ترغیب
 (c) نوکری کا تحفظ (d) ملازم کی شرکت
- 4- درج ذیل میں کون سا ترسیلی عمل کا عنصر نہیں ہے؟

- (a) پیغام کشائی (b) ترسیل
(c) چینل (d) وصول کنندہ
5- گریپ وائن (انگور کی بیل) ہے۔
(a) رسمی ترسیل
(b) ترسیل کے لیے رکاوٹ
(c) جانبی ترسیل
(d) غیر رسمی ترسیل
6- مقام ومنزلت (Status) رکاوٹوں کی درج ذیل قسموں میں سے کس کے تحت آتی ہے؟
(a) معناتی رکاوٹ (b) تنظیمی رکاوٹ
(c) غیر معناتی رکاوٹ (d) نفسیاتی رکاوٹ
7- نارائین مورتی نے کس سافٹ ویئر کمپنی کو فروغ دیا تھا؟
(a) وپرو (b) انفوسس
(c) سٹیم (d) ایچ۔سی ایل
8- ابراہیم ماسلو کی درجہ بندی کی ضرورت میں اعلیٰ سطح کی ضرورت کون سی ہے؟
(a) حفاظتی ضرورت
(b) ضرورت وابستگی
(c) خود شناسی کی ضرورت
(d) وقار حاصل کرنے کی ضرورت
9- پیغام کو ترسیلی علامات میں منتقل کرنے کے عمل کو جاننا جاتا ہے۔
(a) میڈیا (b) پیغام بندی
(c) جوابی عمل (d) پیغام کشائی
10- ترسیلی نیٹ ورک ہے جس میں ایک گمراہ کے سبھی ماتحت صرف گمراہ کے ذریعہ ترسیل کرتے ہیں:
(a) واحد زنجیر (b) معکوس
(c) پھیپہ (d) آزادانہ بہاؤ

مختصر جوابی سوالات

- 1- قائد اور مینجروں کے درمیان امتیاز کیجیے۔
- 2- ترغیب کی تعریف کیجیے۔
- 3- غیر رسمی ترسیل کیا ہے؟
- 4- ترسیل کی معنیاتی رکاوٹیں کیا ہیں؟
- 5- سپروائزر کون ہوتا ہے؟
- 6- ہدایت کاری کے عناصر کیا ہیں؟
- 7- ترغیب کے عمل کی وضاحت کیجیے۔
- 8- گریپ وائین ترسیل کے مختلف نیٹ ورک کی وضاحت کیجیے۔

طویل جوابی سوالات

- 1- ہدایت کاری کے اصولوں کی وضاحت کیجیے۔
- 2- اچھے رہنما کی خوبیوں کی وضاحت کیجیے۔ کیا صرف خوبیاں ہی قیادت کی کامیابی کو یقینی بنا سکتی ہیں؟
- 3- ماسلو کی ترغیب کی ضرورت کی درجہ بندی کے نظریے پر بحث کیجیے۔
- 4- موثر ترسیل کی عام رکاوٹیں کیا ہیں؟ ان پر قابو پانے کے لیے اقدامات تجویز کیجیے۔
- 5- کمپنی کے ملازمین کو فعال بنانے کے لیے مختلف مالی اور غیر مالی ترغیبات کی وضاحت کیجیے۔

اطلاقی نوعیت کے سوالات

- 1- ورکرز کو جب کوئی نیا کام دیا جاتا ہے تو وہ اس کو کرنے میں ہمیشہ اپنی نااہلیت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کسی قسم کے کام کی ذمہ داری لینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ مانگ میں اچانک اضافے کے سبب فرم زائد آرڈر کی تعمیل چاہتی ہے۔ سپروائزر کو اس صورت حال پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے سپروائزر کو طریقے بتائیے۔
- 2- ایک فیکٹری کے ورکرز اکثر پروڈکشن مینجروں کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پروڈکشن مینجر خود پر کافی بوجھ محسوس کرتا ہے۔ ان طریقوں کی صلاح دیجیے جس سے پروڈکشن مینجر کو راحت مل سکے۔
- 3- ایک تنظیم میں ملازمین ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ دباؤ میں ہیں۔ وہ کسی معاملے میں پہل بھی نہیں کر پاتے اور مینجر کے سامنے اپنے مسائل کو ظاہر کرنے سے ڈرتے بھی ہیں۔ آپ کے خیال میں اس میں مینجر کی کیا غلطی ہے؟

4۔ ایک تنظیم میں ملازمین آزادانہ کام کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سوالوں اور مسائل کے لیے کسی کے بھی پاس آزادانہ جاسکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب آپس میں بے تکلف ہو گئے اور دفتر میں نتیجتاً نااہلی کا مظاہرہ ہونے لگا۔ اس سے رازداری پر خراب اثر پڑا اور خفیہ معلومات افشا ہونے لگیں۔ آپ کے خیال میں منیجر کو ترسیل بہتر بنانے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔

پروجیکٹ کا کام

پروجیکٹ ورک اور سائن مینٹ (Project Work and Assignment)

1۔ استاد پانچ طلبا کا انتخاب کر کے ان کا ایک گروپ بنائے گا اور ان میں سے ایک طالب علم کو نچ بنائے گا۔ گروپ کا ہر طالب علم کسی نہ کسی موضوع پر دس جملے لکھے گا۔ ہر طالب علم اس تقریر کو بغور سنے گا۔ آخر میں پانچوں تقریروں میں سے پانچ سوالات پوچھے گا۔ ہر صحیح سوال کے دو نمبر ہوں گے، اس مشق سے طلبا میں سننے کی صلاحیت کو فروغ ملے گا۔

2۔ اپنی کلاس کے ساتھیوں کے بارے میں ایک سروے کیجیے اور ان سے پوچھیے کہ درج ذیل کے بارے میں ان کے محرکات (Motives) کیا تھے:

(i) اسکول میں داخلہ لینا

(ii) مطالعہ کے کورس کا انتخاب کرنا

(iii) قلم کا کوئی برانڈ خریدنا

(iv) فلم دیکھنے جانا

(v) ٹی وی چینل کے پروگرام دیکھنا

مندرجہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے زیادہ تر طلبا میں کون سی تحریک/ترغیب مشترک تھی۔

3۔ ترسیل کی رکاوٹوں کی شناخت کیجیے۔

(i) آپ اور آپ کے ٹیچر کے درمیان

(ii) آپ اور آپ کے دوست کے درمیان

(iii) آپ اور آپ کے بھائی بہن کے درمیان

ان رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی تجویز پیش کیجیے۔ کیا یہ اسی طرح کے اقدامات ہیں جیسا کہ ٹیچروں کے ذریعہ انجام دیے جائیں گے؟

4۔ ایسے دس لوگوں سے ملاقات کیجیے جنہوں نے حال میں درج ذیل اشیاء خریدی ہیں۔

(i) ڈیٹر جنٹ صابن

(ii) فیرنئس کریم

(iii) موٹر باینک

معلوم کیجیے کہ ان اشیاء کے خریدنے میں کیا محرکات تھے۔ ان محرکات کو اپنے کلاس روم میں پیش کیجیے۔

واقعاتی مسئلہ

Y لمیٹڈ ہندوستان میں بینک کا کام کرنے والی کمپنی ہے۔ وہ بینے کے کاروبار میں سرمایہ لگانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ حال ہی میں حکومت ہند نے نجی سیکٹر کو بھی بیمہ کاروبار میں سرمایہ کاری کی اجازت دے دی ہے۔ پہلے بیمہ کاروبار انجام دینے کا خصوصی اختیار صرف LIC اور GIC کا تھا لیکن اب معیشت میں نرمی پیدا کرنے اور اس سے ان کو دیگر کمپنیوں کے ساتھ مسابقتی بنانے کے ساتھ انشورنس ریگولیٹری اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ضوابط کے تحت بیمہ کاروبار شروع کرنے کا لائسنس دیا گیا ہے۔

Y لمیٹڈ کا منصوبہ یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے ملازمین اور ایجنسیوں کی بھرتی کی جائے اور لائف اور نان لائف انشورنس کاروبار کے کافی بڑے حصے کو گرفت میں لینے کے لیے موثر ہدایت کاری پر عمل کیا جائے۔

سوالات

- 1- شناخت کیجیے کہ کمپنی اپنے ملازمین اور ایجنسیوں کی نگرانی کس طرح موثر طور پر کر سکتی ہے۔ موثر نگرانی سے کمپنی کیا فوائد حاصل کرے گی؟
- 2- کمپنی اپنے ملازمین اور ایجنٹوں کو فعال بنانے کے لیے الگ الگ ڈھنگ سے کیا کیا مالی اور غیر مالی ترغیبات دے سکتی ہے؟ اور ان سے کمپنی کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟
- 3- کمپنی کس طرح یقینی بنا سکتی ہے کہ اعلیٰ ترغیب کی ضرورتیں یعنی ستائش اور خود یافتگی جس کی صراحت ابراہم ماسلو کے ذریعہ کی گئی ہے، پوری ہو سکتی ہے؟
- 4- کاروبار کی لائین میں قیادت کی ان خوبیوں کی شناخت کیجیے جو کمپنی کے منبجروں کے پاس ملازمین اور ایجنٹوں کو فعال بنانے کے لیے ضرور ہونی چاہئیں۔
- 5- رسمی ترسیلی نظام کا ایک ماڈل فراہم کیجیے جس کو کمپنی اپنا سکے۔ اس ماڈل میں رکاوٹوں کی شناخت کیجیے۔ انھیں کیسے دور کیا جاسکتا ہے؟
- 6 سوال 5 کے جواب میں آپ نے جو ماڈل پیش کیا ہے اس میں غیر رسمی ترسیل کس طرح رسمی ترسیل کی تکمیل میں مدد کرتی ہے۔